

تعلیمی نصاب

ناصرات الاحمدیہ ناروے

2017

| Innhold | | فہرست |
|--|----|---|
| Veiledning til foreldre, lokale ledere og sekretærer | 7 | ہدایات برائے والدین، صدران اور سیکریٹریان ناصر ات |
| Viktige instruksjer for Nasirat | 9 | ناصر ات کے لئے ہدایات |
| Troskapsløfte for Nasirat | 10 | عہد نامہ ناصر ات الاحمدیہ ناروے |
| Sitater fra Den Utlovde Messias og kalifatet | 11 | ارشادات حضرت مسیح موعودؑ اور خلفاء احمدیت |
| Kunnskapspensum 7-8 år | 13 | تعلیمی نصاب 7-8 سال |
| Kunnskapspensum 8-9 år | 15 | تعلیمی نصاب 8-9 سال |
| Kunnskapspensum 9-10 år | 17 | تعلیمی نصاب 9-10 سال |
| Kunnskapspensum 10-11 år | 20 | تعلیمی نصاب 10-11 سال |
| Kunnskapspensum 11-12 år | 23 | تعلیمی نصاب 11-12 سال |
| Kunnskapspensum 12-13 år | 27 | تعلیمی نصاب 12-13 سال |
| Kunnskapspensum 13-14 år | 30 | تعلیمی نصاب 13-14 سال |
| Kunnskapspensum 14-15 år | 33 | تعلیمی نصاب 14-15 سال |
| Koran del | | حصہ قرآن |
| Første 17 vers av Sura Al-Baqarah | 35 | سورۃ البقرہ کی ابتدائی سترہ آیات |
| Suara Al-Inshirah | 37 | سورۃ الم نشرح |
| Sura Al-Tin | 38 | سورۃ التین |
| Sura Al-Qadr | 39 | سورۃ القدر |
| Sura Al-Qari`ah | 39 | سورۃ القارعہ |
| Sura Al-Takathur | 40 | سورۃ التکاثر |
| Sura Al-Fil | 41 | سورۃ الفیل |
| Sura Al-Asr | 42 | سورۃ العصر |
| Sura Al- Quraish | 42 | سورۃ القریش |
| Sura Al-Kauthar | 43 | سورۃ الکوثر |
| Sura Al-Kafirun | 43 | سورۃ الکافرون |
| Sura Al-Nasr | 44 | سورۃ النصر |
| Sura Al-Lahab | 44 | سورۃ اللہب |
| Sura Al-Ikhlâs | 45 | سورۃ الاخلاص |

| | | |
|---|----|---|
| Sura Al-Falaq | 45 | سورۃ الفلق |
| Sura Al-Nas | 46 | سورۃ الناس |
| Hadith | 47 | احادیث |
| Bønn (dua'e) | | دعائیں |
| Bordbønn | 50 | کھانا کھانے کی دعا |
| Bønn etter endt måltid | 50 | کھانے کے بعد کی دعا |
| Renselsesbønn | 50 | وضو کی دعا |
| Bønn for foreldre | 50 | والدین کے حق میں دعا |
| Kunnskapsbønn | 50 | اضافہ علم کی دعا |
| Sengebønn | 51 | سونے کی دعا |
| Morgenbønn | 51 | جاگنے کی دعا |
| Bønn for toalettbesøk | 51 | بیت الخلاء جانے کی دعا |
| Bønn etter toalettbesøk | 51 | بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا |
| Bønn ved inngang av moskeen | 51 | مسجد میں داخل ہونے کی دعا |
| Bønn ved utgang av moskeen | 51 | مسجد سے باہر نکلنے کی دعا |
| Bønn ved faste (imsak) | 52 | روزہ رکھنے کی دعا |
| Bønn ved bryting av fasten (iftar) | 52 | روزہ افطار کرنے کی دعا |
| Bønn ved utgang av huset | 52 | گھر سے باہر جانے کی دعا |
| Bønn ved inngang av huset | 52 | گھر میں داخل ہونے کی دعا |
| Bønn ved innledning av en reise | 53 | سواری کی دعا |
| Bønn ved bruk av nytt plagg | 53 | نیا کپڑا پہننے کی دعا |
| Bønn ved aksept av troen | 53 | اقرار ایمان کی دعا |
| Bønn for at Allah skal være tilstrekkelig | 53 | خدا تعالیٰ کی کفایت کی دعا |
| Bønn for beskyttelse mot ondskap | 53 | برائی سے پناہ طلب کرنے کی دعا |
| Bønn om bistand | 54 | مدد اور نصرت کی دعا |
| Bønn om standhaftige seier over de vantro | 54 | ثابت قدمی اور کافروں پر مدد پانے کی دعا |
| Bønn ved tap | 54 | تلافی نقصان کی دعا |
| Bønn om tilgivelse og nåde | 54 | بخشش و رحم کی دعا |
| Bønn om tilgivelse | 54 | مغفرت چاہنے کی دعا |
| Bønn om oppnåelse av det gode | 55 | حصول خیر کی عاجزانہ دعا |

| | | |
|---|----|---|
| Bønn om oppnåelse av Guds barmhjertighet | 55 | دعائے تمنا رحمتِ باری تعالیٰ |
| Bønn om suksess | 55 | طلب کامیابی کی دعا |
| Bønn om hjelp mot ulykke | 55 | مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی دعا |
| Bønn om å bli et gudfryktig menneske | 55 | خدا ترس انسان بننے کی دعا |
| Den utlovede Messiasas sin bønn for beskyttelse mot vanskeligheter og sykdom åpenbart av Allah: | 56 | حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مصیبت اور بیماری سے نجات کی الہامی دعا |
| Bønn etter Salat nr. 1 | 56 | نماز کے بعد کی دعائیں نمبر 1 |
| Bønn etter Salat nr. 2 | 56 | نماز کے بعد کی دعائیں نمبر 2 |
| Bønn ved inngang av gravlund | 56 | قبرستان جانے کی دعا |
| Bønn etterfulgt av Adhan | 57 | اذان کے بعد کی دعا |
| Renselse før bønn | 57 | وضو کا طریق |
| Iqamah | 59 | اقامت |
| Bønn | 59 | نماز |
| Salat-ul-Witr | 63 | دعائے قنوت |
| Bønn etter salat | 64 | نماز کے بعد کی تسبیحات |
| Begravelsesbønn | 64 | دعائے جنازہ |
| Lovprisning ved Id | 64 | عمید کی تکبیرات |
| Gudsattributter | 65 | اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام |
| Noen viktige ord og uttrykk | 69 | بعض ضروری جملے |
| Utdrag av Den utlovde Messias | 70 | ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام |
| Qasida | 71 | قصیدہ حضرت مسیح موعود |
| 10 betingelser for Bai'at | 73 | دس شرائط بیعت |
| Kalifatets jubileums bønner | 74 | خلافت جوہلی کی خصوصی دعاؤں کی تحریک |
| Etiketter | | آداب |
| Etiketter for bønn | 75 | نماز کے آداب |
| Etiketter for resitasjon av den hellige Koranen | 76 | قرآن مجید کی تلاوت کے آداب |
| Etiketter for moské | 78 | مسجد کے آداب |
| Etiketter for Måltid | 79 | کھانے کے آداب |
| Etiketter for Samtale og kommunikasjon | 80 | گفتگو کے آداب |
| Respekt for foreldre | 81 | والدین کے آداب |

| | | |
|---------------------------------|----|----------------------------------|
| Kalme | 82 | کلمے |
| | 83 | سوالات بعنوان ”اسلام اور احمدیت“ |
| | 88 | سوالات بعنوان ”قرآن کریم“ |
| 10 betingelser for Bai'at | 94 | |
| Spørsmål om Islam og Ahmadiyyat | 95 | |
| Spørsmål om Koranen | 99 | |

Veiledning til foreldre, lokale ledere og sekretærer

1. I arbeidet med å lage dette pensumet er det tatt utgangspunkt i at jentene skal lære om islam i forhold til sin alder. Derfor blir pensumet oppdatert og videreutviklet hvert år. Det er også viktig at pensumet fra tidligere blir repetert.
2. Lokale ledere og sekretærer burde sørge for at alle Nasirat har en kopi dette pensumet.
3. Pensumet skal ikke bare memoriseres. De burde være et fokus på å ta i bruk læren i hverdagen.
4. **Nasirat kan velge å lære seg oversettelsen på hvilket som helst språk; urdu eller norsk. Formålet er at de skal forstå det.**
5. Det er inkludert diverse informasjon i tillegg til det årlige pensumet. Vennligst les denne informasjonen nøye.
6. Mødre burde også motiveres til å lese pensumet, slik at de kan lære det bort til sine Nasirat på en enda bedre måte.
7. **Etter endt termin, vil det avholdes en test, henholdsvis i mars og september. PS! Tidspunkt for testen kan endres etter behov.**
8. **Hvis en Nasira fyller år en måned før testen, kan hun gi ta testen fra det forrige året.**
9. I månedsrapporten skal sekretæren skrive hva det har blitt undervist i forhold til pensumet.
10. Det er ikke meningen at innholdet i pensum bare blir lest opp i Nasiratmøtene. Sekretærer burde heller forklare bønnene og beretningene i pensum med enkle ord slik at Nasirat forstår dem.
11. Det burde være stort fokus på å lære

ہدایات برائے والدین، صدران اور سیکریٹریان ناصر ات

1. اس نصاب کو بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ عمر کے حساب سے بچیوں کو اسلام کی تعلیم سے روشناس کروایا جاسکے۔ اس لئے اسے سال بہ سال بنایا گیا ہے تاکہ ہر سال قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ مگر یہ بھی ضروری ہے کہ پچھلے سبق کی دہرائی بھی ہوتی رہے۔
2. صدر اور سیکریٹری ناصر ات اس بات کو ممکن بنائیں کہ ہر ناصرہ کے پاس نصاب ضرور موجود ہو۔
3. نہ صرف نصاب یاد کروایا جائے بلکہ اس طرف بھی توجہ دلائی جائے کہ ان سب تعلیمات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔
4. ناصر ات ترجمہ اُردو یا نارویجن کسی بھی زبان میں یاد کر سکتی ہیں۔
5. سالانہ نصاب کے علاوہ اس کتابچے میں بہت سی دوسری معلومات بھی شامل کی گئی ہیں جو بچیوں کو یاد کروائی جائیں۔
6. ماؤں کو اس طرف ترغیب دلائیں کہ وہ خود بھی اس نصاب کا مطالعہ کریں تاکہ ناصر ات کو اچھے طریقہ سے یاد کروا سکیں۔
7. نصاب کے مطابق ہر ششماہی کا امتحان لیا جائے گا۔ جو کہ مارچ اور ستمبر میں ہو گا۔ (بوقت ضرورت تبدیلی کی جاسکتی ہے)
8. اگر کسی ناصرہ کا معیار ایک ماہ پہلے تبدیل ہو ا ہو تو وہ پچھلی سہ ماہی کا نصاب سنا سکتی ہے۔
9. سیکریٹری اپنی ماہانہ رپورٹ میں ضرور ذکر کریں کہ نصاب کے مطابق کیا پڑھا گیا۔
10. کلاسز کے موقع پر صرف پڑھ کر سنا دینا مقصد نہیں ہے بلکہ سیکریٹری ناصر ات احادیث اور دعاؤں وغیرہ کی تشریح کر کے آسان الفاظ میں ناصر ات کو سمجھائیں تاکہ انہیں ذہن نشین ہو جائے۔
11. اُردو سکھانے کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے جس کے لئے سیکریٹری ناصر ات ماؤں کے ساتھ مل کر ایک لائحہ عمل بنائیں جس کے مطابق بچی کو کلاس میں اور گھر پر اُردو سیکھانے کی مسلسل مساعی کی جائے اور اُردو کا کام باقاعدگی سے چیک کیا جائے۔

urdu. Sekretærer burde sammen med mødrene lage en årsplan som følges både hjemme og på Nasiratmøtene for å motivere jentene til å lære urdu. Leksene i urdu burde også sjekkes regelmessig.

12. Hvis en jente ikke når opp til det nivået i urdu som er satt i hennes pensum, burde hennes nivå evalueres og deretter utvikles en egen plan tilpasset hennes nivå.

13. I arbeidet med urdu kan Nasirat også få tildelt små avsnitt eller setninger som de leser opp for de andre jentene. Dermed vil de også kunne øve seg på å lese urdu.

14. I Nasiratmøte burde det avholdes diskusjoner om ulike temaer slik at jentenes synspunkter kommer frem. På denne måten kan man reformere deres tanker om nødvendig på et tidlig stadium.

15. Gi Nasirat forskjellige emner de skal utforske og forberede til neste Nasiratmøte. På denne måten vil de lære å utforske og samtidig også lære seg å snakke foran folk.

16. Prøv å svare tydelig og tilfredsstillende på spørsmål fra Nasirat.

17. Hvis det er behov for hjelp fra nasjonalt hold, eller hvis det er forslag til forbedringer er det ønsket at dere tar kontakt.

Måtte Gud gjøre oss og våre neste generasjoner i stand til å følge islams lære, hjelpe oss med å oppdra våre barn på en best mulig måte og å lære dem islams vakre lære slik at de utgjør en nytte for menigheten. Amen.

12. اگر بچی کو اپنے نصاب میں دیے گئے سبق کے مطابق اردو نہیں آ رہی تو اس کے معیار کا جائزہ لینے کے بعد اردو سیکھنے کے لئے موزوں پلان بنایا جائے۔

13. اردو کی مساعی کے لئے آپ کلاس پر بچی کو کوئی آسان جملہ یا پیرا گراف بھی دے سکتی ہیں کہ وہ اسے باقی سب کو پڑھ کر سنائے۔ اس سے اردو پڑھنے کی مشق بھی ہوگی۔

14. کلاسز میں مختلف موضوعات پر ڈسکشن وغیرہ رکھیں تاکہ بچیوں کے رجحان اور سوچ کا بھی علم ہو تا بوقت ضرورت ان کی اصلاح کی جا سکے۔

15. ناصر ات کو مختلف موضوع دیں کہ وہ اگلی کلاس تک اس پر ریسرچ کر کے خود مضمون تیار کر کے لائیں اس سے ان میں ریسرچ کرنے کی اور دوسروں کے سامنے اپنی بات بیان کرنے کا ہنر بھی آئے گا۔

16. کوشش کریں کہ ناصر ات کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات واضح اور تسلی بخش دیں تاکہ سوال کرنے والی بچی مطمئن ہو

17. مرکز سے اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور مطلع کریں نیز کام میں بہتری کے لئے ہر تجویز کا خیر مقدم کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اسلام کی حسین تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی احسن رنگ میں تربیت کرنے اور انہیں دین کا علم سیکھانے والے ہوں تا وہ دین اسلام کی سرسبز شاخیں بنیں اور جماعت کے لئے مفید وجود ثابت ہوں۔ آمین ثم آمین

کران کونیک قسمت دے ان کو دین و دولت

کران کی خود حفاظت ہو ان پہ تیری رحمت

دے رُشد اور ہدایت اور عمر اور عزت

یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی

Viktige instruksjer for Nasirat

- ❖ Du må prøve å praktisere de gode tingene dere lærer om. Dersom du for eksempel lærer deg en bønn (dua), må du huske å leve etter den.
- ❖ I dette pensumet er det beskrevet retningslinjer for atferd, for eksempel for oppførsel i moské. Prøv å følge disse retningslinjene i deres daglige liv.
- ❖ Be fem ganger om dagen og resiter den hellige Koranen daglig.
- ❖ Før dere bestemmer dere for å gjøre noe, så tenk over om Allah vil like det eller ei.
- ❖ Prøv daglig å se et eller annet program på MTA, og særlig fredagsprekenen til Huzoor^{aba}.
- ❖ Skriv brev regelmessig til Huzoor^{aba}, og del dine tanker og bekymringer med ham samt send deres forespørsler om bønn.
- ❖ Gjør ikke noe som du føler du må skjule for dine foreldre. Hør på de eldre, og vis dem respekt og omtanke.
- ❖ Delta regelmessig i de forskjellige klassene i moskeen, og gi beskjed dersom du ikke kan møte opp.
- ❖ Meld deg frivillig til menighetsarbeid, og blir du satt til å gjøre et arbeid så utfør det med glede og oppriktighet.
- ❖ Gjør det til en vane å lese pensumet daglig. Ikke forsøk å pugge, men heller prøv å forstå det, for da vil det bli lettere å huske.
- ❖ Ha fokus på renslighet rundt deg, fra det å bruke rene klær til for eksempel å ikke klusse i dine bøker.
- ❖ Vær påpasselig med tiden. Lag en timeplan/oversikt over hva som skal utføres, som for eksempel lekser, husarbeid, tv og lek.
- ❖ Det er viktig at du ber for deg selv. Ønsker du deg noe eller trenger du hjelp til noe så be til Allah om veiledning, og del dine alle innerste tanker med Ham.

ناصرات کے لئے ہدایات

- ☆ آپ جو نیک باتیں سیکھیں ان پر عمل کریں۔ مثلاً آپ نے دعائیں یاد کی ہیں تو موقع کی مناسبت سے وہ دعائیں کیا کریں۔
- ☆ نصاب میں موجود مسجد کے آداب، نماز کے آداب، گفتگو کے آداب وغیرہ کے بارے میں غور کریں کہ کیا آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان پر عمل کرتی ہیں یا نہیں۔
- ☆ پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کیا کریں۔ ہر کام کرنے سے پہلے غور کر لیا کریں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہو گا یا نہیں؟
- ☆ MTA کے پروگرام باقاعدگی سے دیکھا کریں خاص طور پر حضور انور کا خطبہ جمعہ ضرور سنا کریں۔
- ☆ حضور کو خط ضرور لکھیں اور اس میں حضور سے اپنی باتیں شیئر کریں اور دعا کے لئے بھی ضرور لکھیں۔
- ☆ مرکزی اور مقامی کلاسوں میں باقاعدگی سے شامل ہوا کریں۔ اگر کسی وجہ سے آپ نہیں آسکتی تو اپنے نہ آنے کی اطلاع سیکرٹری یا صدر کو ضرور دیں۔
- ☆ جماعت کے کاموں کے لئے اپنے آپ کو خود پیش کریں، اگر کوئی ڈیوٹی یا کام کرنے کو کہا جائے تو خوشی سے سرانجام دیں۔
- ☆ نصاب کو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، صرف سیکرٹری کو سنانے کے لئے رٹانہ لگائیں یہ نصاب سراسر آپ کے فائدہ کیلئے ہے۔
- ☆ وقت کی پابندی کیا کریں روزانہ کے کاموں کے لئے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، سکول کے کام، گھر کا کام، ٹی وی کا ٹائم، اور کھیل کود کے لئے ایک وقت مقرر ہونا چاہیے۔
- ☆ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ روزانہ دانت صاف کرنا، نہانا اپنے کپڑے صاف رکھنا، کتابوں اور کاپیوں پر دھبے نہ ڈالنا، اسی طرح اپنے گھر اور ماحول کو صاف رکھیں۔
- ☆ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو اپنے ماں باپ سے چھپانا پڑے سمجھ جائیں کہ وہ غلط ہے۔ والدین کا کہنا مانیں، ان کی خدمت کریں اور ان سے محبت کریں۔
- ☆ اپنے لئے خود ضرور دعا کریں اور جو کچھ بھی مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اپنے دل کی باتیں اس سے کریں اور اسی سے مدد مانگیں۔

Troskapsløfte for Nasirat عہد نامہ ناصرۃ الاحمدیہ ناروے

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

میں اقرار کرتی ہوں کہ اپنے مذہب قوم اور وطن کی خدمت کے لئے ہر وقت تیار رہوں گی۔ سچائی پر ہمیشہ قائم رہوں گی اور خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لئے ہر قربانی کے لئے تیار رہوں گی۔ (انشاء اللہ)

Jeg lover høytidelig at jeg alltid skal være forberedt på å tjene min tro, mitt land og mitt folk. Jeg vil alltid holde fast ved sannheten, og være beredt til å utføre ethvert offer for å opprettholde kalifatet i Ahmadiyyat. *Inshallah*

حضرت مسیح موعودؑ اور خلفاء احمدیت



Den utlovede Messias^{as}
Mirza Ghulam Ahmad



Khalifatul Masih I
Hazrat Hakeem Mulana
Noor-ud-din^{ra}



Khalifatul Masih II
Hazrat Mirza Bashir-ud-din
Mahmood Ahmad^{ra}



Khalifatul Masih III
Hazrat Mirza Nasir
Ahmad^{ra}



Khalifatul Masih IV
Hazrat Mirza Tahir
Ahmad^{ra}



Khalifatul Masih V
Hazrat Mirza
Masroor Ahmad^{aba}

Sitater fra Den Utlovde Messias og kalifatet

Grunnleggeren av vår menighet, Den Utlovde Messias^{as} uttalte seg om viktigheten av det man lærer som barn og sa:

«Barndommen er et godt tidspunkt for å tilegn seg religiøs kunnskap. Hukommelsen er god i barndommen, og slik hukommelse får du ikke på noe annet tidspunkt i livet. Det du lærer i denne perioden setter seg godt og glemmes sjeldent...»

Hazrat Mirza Bashir-du-Din Mehmood Ahmad^{ra} sa:

«Hvis vi ser etter vil vi oppdage at barndomsperioden er den mest egnede perioden til å ta til seg kunnskap. Det er i denne perioden man bør oppdra barna etter den islamske læren. Selv om små barn ser ut til å ha nedsatt funksjonsevne på enkelte områder er dette likevel den beste perioden for læring.»

Hazrat Mirza Tahir Ahmad^{ra} sinn uttalelse:

«Ikke vent i den tro at barna fortsatt er små og at de først må bli litt eldre. Dere bør heller kontrollere barna når de er små, for det vil bli vanskelig når de blir eldre, siden de vokser opp med feil oppdragelse. Hvis de vokser opp på denne måten vil det senere bli et strevsomt arbeid med å lede dem tilbake på rett spor. Barndommen er den optimale tiden for å forme dem, de vil følge den veien du leder dem mot, derfor bør dere fokusere på dem nå.» (Fredagspreken 1. desember 1989)

Under anledning for den britiske Waqfat-e-Nau sitt Ijtema sa den femte kalifen^{aba}:

«Dere bør ha en eksemplarisk oppførsel. Dere bør være rollemodeller når det gjelder tilbedelse, ærlighet, tillit, troen på Gud og

ارشادات حضرت مسیح موعودؑ اور خلفاء احمدیت

بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مسیح موعودؑ بچپن میں سکھائی گئی باتوں کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”دینی علوم کی تحصیل کے لئے طفولیت کا زمانہ بہت ہی مناسب اور موزوں ہے۔۔۔۔۔ طفولیت کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ انسانی عمر کے کسی دوسرے حصہ میں ایسا حافظہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ پہلی عمر میں علم کے نقوش ایسے طور پر اپنی جگہ کر لیتے ہیں اور قوی کے نشوونما کی عمر ہونے کے باعث ایسے دلشین ہو جاتے ہیں کہ پھر ضائع نہیں ہو سکتے۔۔۔۔۔“ (ملفوظات جلد اول صفحہ 44 طبع جدید)

حضرت مصلح موعودؑ نے فرمایا۔

”در حقیقت اگر ہم غور کریں تو بچپن کا زمانہ سب سے زیادہ سیکھنے کے لئے موزوں ہوتا ہے اور اسی عمر میں اس کی تربیت اسلامی اصول پر کرنی چاہیے پس گو بچہ بعض اعمال کے لحاظ سے معذور سمجھا جاتا ہے سیکھنے کا عمدہ زمانہ اس کی وہی عمر ہے۔“ (مشعل راہ جلد اول صفحہ 513)

حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابعؑ کے اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھیں جس میں آپؑ نے فرمایا:

”اس تیاری میں دیر نہ کر دیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی تو چھوٹے بچے ہیں ابھی انہوں نے بڑے ہونا ہے۔ حالانکہ بچپن ہی سے بچوں کو سنبھالیں گے تو سنبھالے جائیں گے جب غلط روش پر بڑے ہو گئے تو اس غلط روش کو بعد میں درست کرنا بہت ہی محنت کا اور جان جو کھوں کا کام بن جاتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ جب یہ نرم نرم کو نیلیں ہیں اس وقت ان کو جس ڈھب پر چاہیں یہ چل سکتے ہیں اس وقت ان کی طرف توجہ کریں۔“ (خطبہ جمعہ ارشاد فرمودہ یکم دسمبر 1989)

واقعات نو UK کے اجتماع کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”آپ کو ایسے اعلیٰ اخلاق اپنانے چاہیے کہ آپ کا طرز عمل دوسروں کے لئے ایک خوبصورت قابل تقلید مثال بن جائے۔ اس لئے اپنی عبادت کے اعتبار سے آپ کو سب کے لئے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ اپنی سچائی کے اعتبار سے آپ کو سب کے لئے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے توکل کے اعتبار سے آپ ہر ایک کے لئے رول ماڈل ہوں۔ اور اپنی پاکبازی اور عفت کے اعتبار سے آپ ہر ایک کے لئے ایک رول ماڈل ہوں۔ اسی طرح آپ کو بے فائدہ اور وقت

renhet. Dere bør holde dere unna unødvendige og tidsfordrivende aktiviteter, her må dere også være forbilder og ikke la dere bli ledet mot disse aktivitetene. Dere bør heller ikke ha fokus på upassende trender og mote. Ha alltid Gud foran dere og unngå handlinger som er mislikt av Ham. Ha et trofast forhold til kalifatet og vær alltid forberedt på å ofre det som trengs for kalifatet. Hør godt på fredagsprekene og andre taler holdt av kalifen. Prøv også å følge det som blir sagt her.»

I klassen som ble holdt i Norge sa Huzoor^{aba}:

«10-årsalderen er en alder som ifølge religionen er en alder av modenhet, der bønn også blir en forpliktelse. Vi ber fem ganger om dagen og Gud og Hans Profet har gjort dette til plikt fra 10-årsalderen. Det betyr at dere burde forbedre alle deres handlinger i løpet av denne alderen.»

ضائع کرنے والی مصروفیات سے دور رہنے میں ایک مثال قائم کرنی چاہے اور ان سے کسی بھی طرح متاثر نہ ہوں۔ اور آپ کا کسی بھی ناپسندیدہ فیشن اور رواج کی طرف رجحان نہیں ہونا چاہے۔۔۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھیں اور ان تمام چیزوں سے دور رہیں جو اُسے پسند نہیں۔ ہمیشہ خلافت سے وفا کا تعلق قائم رکھیں اور اس کی حفاظت اور استحکام کے لئے ہر قسم کی قربانی کے لئے تیار رہیں۔ آپ جمعہ کے خطبوں کو غور سے سنا کریں۔ اور خلیفہ وقت کی دوسری تقریروں کو بھی۔ اور ان پر ہر ممکن عمل کرنے کی کوشش کریں۔“

ناروے میں واقفین نو کی کلاس میں حضور پر نور نے فرمایا۔

”اب دس سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے جو دین کی تعلیم کے مطابق mature عمر ہے۔ جس میں نماز ادا کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اب نماز ایک ایسی عبادت ہے جو خدا تعالیٰ کے حضور پانچ وقت ادا کرنی ہے اور اس عبادت کو اللہ اور اسکے رسول نے دس سال کی عمر میں فرض کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں تمہارے ہر عمل میں ایک تبدیلی ہونی چاہے۔“

پانچ بنیادی اخلاق



1. سچائی
2. نرم اور پاک زبان کا استعمال
3. وسعت حوصلہ
4. دوسروں کی تکلیف کا احساس اور اسے دور کرنا
5. مضبوط عزم و ہمت

Kunnskapsensum 7-8 år

1. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Sura Al Kauthar med oversettelse
- ◆ Sura Al Baqarah: første 4vers

Hadith: beretning nummer 1 og 2

Bønn:

- ◆ Bønn før maten med oversettelse
- ◆ Bønnen etter maten med oversettelse.

Guds attributter: de tre første attributtene med oversettelse.

Salaât: fra "Niyat-bønn" til "bønnen sajdah"

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring: "Konger vil lete etter velsignelser i dine klær."

Qaseedah: vers nummer 1 – 3 .

Dikt:

Koran sab se acha
Koran sab se piyara
Koran dil ki kowat
Koran hai sahara
Allah miyaan ka khat hai
Jo mere naam aya
Ustaani ji parhao
Jaldi mujhe siparah

Urdu: Kunne skrive og lese urdualfabetet

Retningslinjer: regler for Bønn - Salât

2. Halvår

Den hellige Koranen:

Sura Al Ikhlas med oversettelse
Sura Al-Baqarah: første 6 vers

Hadith: beretning nummer 3 og 4

Bønn:

- ◆ Bønn for renselse - *Wudhu* - med oversettelse
- ◆ Bønn for foreldre med oversettelse.

Guds attributter: attributt nummer 4-6 med

تعلیمی نصاب 7-8 سال

پہلی ششماہی

حصہ قرآن: سورۃ الکوثر بمعہ ترجمہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات
حصہ احادیث: حدیث نمبر 1، 2
حصہ دعا: کھانا کھانے کی دعا بمعہ ترجمہ، کھانا کھانے کے بعد کی دعا بمعہ ترجمہ
صفات نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے پہلے 3 نام بمعہ ترجمہ
حصہ نماز: نیت نماز سے لے کر دو سجدوں کے درمیان کی دعائیں
الہام حضرت مسیح موعودؑ: ” بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔“

قصیدہ: شعر نمبر 1 تا 3
نظم: قرآن سب سے اچھا قرآن سب سے پیارا
قرآن دل کی قوت قرآن ہے سہارا
اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام آیا
اُستانی جی پڑھاؤ جلدی مجھ سپارہ
(بخار دل)

اردو: حروفِ تہجی لکھنا اور پڑھنا آنا چاہیے۔
آداب زندگی: نماز کے آداب

دوسری ششماہی

حصہ قرآن: سورۃ الاخلاص بمعہ ترجمہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 6 آیات
حصہ احادیث: حدیث نمبر 3، 4
حصہ دعا: وضو کی دعا بمعہ ترجمہ، والدین کے حق میں دعا بمعہ ترجمہ
صفات نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے 4-6 نام بمعہ ترجمہ
حصہ نماز: التحیات سے لے کر آخری دُعاؤں تک۔
الہام حضرت مسیح موعودؑ: ”میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔“
قصیدہ: شعر نمبر 4 تا 6

oversettelse

Salaât: Fra "Niyat-bønn" til siste bønnene.

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring:
"Jeg vil spre ditt budskap til alle verdens hjørner"

Qaseedah: vers nummr 4-6.

Dikt: Pehle to nazrah se
ankhein karon gi roshan
Phir tarjamah sikhana
jab parh chokon mein sara
Matlab na ae jab tak

kyon kar amall hai momkin
Be tarjameh ke hargiz
apna nahin guzara.

Urdu:

- ◆ Kunne skrive og lese eget navn
- ◆ Kunne sette sammen ord med to bokstaver, og skrive og lese dem.

نظم: اللہ میاں کا خط

پہلے تو ناظرہ سے آنکھیں کروں گی روشن

پھر ترجمہ سکھانا جب پڑھ چکوں میں سارا

مطلب نہ آئے جب تک کیونکر عمل ہے ممکن

بے ترجمے کے ہرگز اپنا نہیں گزارا

(بخار دل)

اُردو: اپنا نام اور دو حروف والے الفاظ پڑھنے اور لکھنے آنے چاہیے۔

سنہری اصول

- ◆ نصاب میں دی گئی دعاؤں کو موقع کی مناسبت سے خود بھی اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ بچوں کو یاد ہوں اور بچوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی اونچی آواز میں دعا پڑھیں۔
- ◆ وقت کی پابندی کی عادت ڈالیں۔ نماز وقت پر ادا کریں اسی طرح اپنے کھانے پینے اور کھیلنے کے اوقات مقرر کریں۔
- ◆ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔
- ◆ عمر کے مطابق امور خانہ داری سیکھیں۔

Kunnskapsensum 8-9 år

1. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Sura Al Falaq med oversettelse
- ◆ Sura Al Baqarah: første 8 vers

Hadith: beretning nummer 5 og 6 med oversettelse.

Bønn:

- ◆ Bønn før leggetid med oversettelse
- ◆ Morgenbønn med oversettelse

Guds attributter: attributt nummer 9-7 med oversettelse.

Salaât: Dua-e-Qanoot

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring:
“Dersom du blir min vil hele verden bli din”

Qaseedah: vers nummer 7-10

Dikt:

Meri raat din bas yehi ik sadaa hai
keh iss alame kon ka ik khuda hai
Ussi ne hai peda kiya iss jahaan ko
sitaron ko soraj ko or aasman ko
Woh hai ek uska nahin koi hamsarr
woh malik he sab ka
woh haqim hai sab parr
Na hai baap uska na hai koi beta
Hamesha se hai or hamesha rahe ga

Urdu:

- ◆ Kunne skrive og lese sitt eget navn
- ◆ Kunne skrive ord med to til tre bokstaver og lese dem.

Retningslinjer: Regler for høytlesing av den hellige Koranen.

2. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Sura Al Fil med oversettelse
- ◆ Sura Al-Baqarah: første 10 vers

تعلیمی نصاب 8-9 سال

پہلی ششماہی

حصہ قرآن: سورۃ الفلق بمعہ ترجمہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 8 آیات

حصہ احادیث: حدیث نمبر 6، 5 بمعہ ترجمہ

حصہ دعا: سونے کی دعا بمعہ ترجمہ، جاگنے کی دعا بمعہ ترجمہ

صفاتی نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 7-9 بمعہ ترجمہ

حصہ نماز: دعائے قنوت

الہام حضرت مسیح موعودؑ: ”جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو۔“

قصیدہ: شعر نمبر 7 تا 10

نظم: میری رات دن بس یہی اک صدا ہے

کہ اس عالم کون کا اک خدا ہے

اُسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو

ستاروں کو سورج کو اور آسماں کو

وہ ہے ایک اُس کا نہیں کوئی ہمسر

وہ مالک ہے سب کا وہ حاکم ہے سب پر

نہ ہے باپ اس کا نہ ہے کوئی بیٹا

ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا (کلام محمود)

اُردو: اپنا نام لکھنا اور پڑھنا آئے اور دو، تین حروف ملا کر الفاظ لکھنے اور پڑھنے آنے چاہیں۔

آداب زندگی: قرآن کریم کی تلاوت کے آداب

دوسری ششماہی

حصہ قرآن: سورۃ الفیل بمعہ ترجمہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 10 آیات

حصہ احادیث: حدیث نمبر 7، 8 بمعہ ترجمہ

Hadith: beretning nummer 7 og 8 med oversettelse

Bønn:

- ◆ Moskebønnen som leses ved inngang og utgang
- ◆ Bønnen som resiteres etter toalettbesøk med oversettelse

Guds attributter: attributt nummer 10-12 med oversettelse.

Salaât: Fra "Niyat-bønn" til "Tauz" med oversettelse.

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring: "Er ikke Gud tilstrekkelig for mennesket?"

Qaseedah: vers nummer 1-2 med oversettelse

Nazm:

Nahin us ko hajat koi biwion ki
Zarorat nahin us ko kuch saathion ki
Harr ik cheez par us ko qudrat hai hasil
Harr ik kaam ki us ko taqaat hai hasil
Paharon ko us ne hi uncha kia hai
Samandar ko us ne hi pani diya hai
Yeh darya jo charoon taraf beh rehe hai
Ussi ne to qudrat se peda kiye hai.

Urdu:

- ◆ Kunne sette sammen små ord eller setninger. For eksempel ball, skje, blyant osv.

حصہ دعا: بیت الخلاء جانے کی دعا بمعہ ترجمہ، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا بمعہ ترجمہ

صفاتی نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 10-12 بمعہ ترجمہ

حصہ نماز: نیت نماز سے لے کر تہنؤذ تک بمعہ ترجمہ

الہام حضرت مسیح موعودؑ: اَلَيْسَ اللّٰهُ يَكْفِيْ عَبْدَهُ
کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں۔

قصیدہ: شعر نمبر 1 تا 2 بمعہ ترجمہ

نظم:
نہیں اُس کو حاجت کوئی بیویوں کی
ضرورت نہیں اُس کو کچھ ساتھیوں کی
ہر اک چیز پر اُس کو قدرت ہے حاصل
ہر اک کام کی اُس کو طاقت ہے حاصل
پہاڑوں کو اُس نے ہی اُونچا کیا ہے
سمندر کو اُس نے ہی پانی دیا ہے
یہ دریا جو چاروں طرف بہ رہے ہیں
اُسی نے تو قدرت سے پیدا کئے ہیں (کلام محمود)

اُردو: چھوٹے چھوٹے الفاظ اور ان کے جملے بنانے آنے چاہیے مثلاً گیند، چمچ، پینسل وغیرہ

حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ نے فرمایا۔

”ہر سمجھدار اور شریف بچے کو ہر وقت یہ خیال رہنا چاہئے کہ میں کہیں اپنے رب کو ناراض نہ کر دوں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس وقت تک نبھا نہیں سکتے جب تک ہمارے دلوں میں اپنے پیدا کرنے والے رب کی وہ محبت پیدا نہ ہو جائے جو اسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔“

Kunnskapspensum 9-10 år

1. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Sura Al Quraish med oversettelse
- ◆ Sura Al Baqarah: første 12 vers

Hadith: beretning nummer 9 og 10 med oversettelse.

Bønn:

- ◆ Moskebønn som resiteres ved inngang og utgang med oversettelse
- ◆ Bønn for tilegnelse av kunnskap med oversettelse.

Guds attributter: attributt nummer 13-15 men urdu og norsk oversettelse

Salaât: Sura Al Fatihah og sura Al Ikhlas med oversettelse.

Navnet på de fem daglige bønnene men antall obligatoriske *Rakaât* og *Sunnat*:

- ◆ Fajr: 2 sunnat og 2 farz
- ◆ Zohar: 4 sunnat, 4 farz og 2 sunnat
- ◆ Asar: 4 farz
- ◆ Maghrib: 3 farz og 2 sunnat
- ◆ Isha: 4 farz, 2 sunnat og 3 witar.

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring:

“Jeg vil velsigne deg meget, og konger vil søke velsignelse i dine klær”.

Qaseedah: vers nummer 3-4 med oversettelse

Dikt:

Woh peshwa hamara jis se hai noor sara,
Naam uska hai Muhammad dilbar mera yehi hai

Sab paak hai peyambar ik dosre se behtar
Lekaz khudae barr tarr kherul wara yehi hai
Pehlon se khob tar hai khobi mein ik kamar hai

Us par har ik nazar hai badr-ud-uja yehi hai
Pehle to rah mein hare paar usne hai utare,
Mein jaon uske ware bas na khuda yehi hai

تعلیمی نصاب 9-10 سال

پہلی ششماہی

حصہ قرآن: سورة القریش بمعہ ترجمہ، سورة البقرہ کی ابتدائی 12

آیات

حصہ احادیث: حدیث نمبر 9، 10 بمعہ ترجمہ

حصہ دعا: مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا بمعہ ترجمہ، اضافہ

علم کی دعا بمعہ ترجمہ

صفاتی نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 13-15 بمعہ اردو اور

نارویجن ترجمہ

حصہ نماز: سورة الفاتحہ اور سورة الاخلاص بمعہ ترجمہ

دن میں فرض نمازیں پانچ ہیں۔ ان کی رکعات کی تعداد یاد کریں۔

فجر دوست، دو فرض

ظہر چار سنت، چار فرض، دو سنت

عصر چار فرض

مغرب تین فرض، دو سنت

عشاء چار فرض، دو سنت، تین رکعت وتر

الہام حضرت مسیح موعود: ”میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ یہاں تک کہ

بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔“

قصیدہ: شعر نمبر 3 تا 4 بمعہ ترجمہ

وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا

نام اُس کا ہے محمد دلبر مرا یہی ہے

سب پاک ہیں پیمبر اک دوسرے سے بہتر

لیک از خدائے برتر خیر الوریٰ یہی ہے

پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں اک قمر ہے

اس پر ہر اک نظر ہے بدر اللہ جیٰ یہی ہے

پہلے تو رہ میں ہارے پار اُس نے ہیں اتارے

میں جاؤں اُس کے وارے بس ناخدا یہی ہے

(در ثمنین)

مشکل الفاظ کے معنی:-

معنی

الفاظ

Översettelse av vanskelige ord:

| Ord | Betydning |
|-------------|--|
| Peshwa | Veileder |
| Dilbar | Elsket |
| Peyambar | Profet |
| Kherulwara | Den beste skapning (Den hellige Profeten ^{saw} sitt kallnavn) |
| Qamar | Måne |
| Badr-ud-uja | Måne på svart natthimmel |
| Ware | Viet eller ofret |

Urdu:

- ◆ Lese og skrive fra Urdu *Qaida*
- ◆ Sette sammen setninger som inneholder ord med 2-3 bokstaver

Retningslinjer: atferd i Moskeen**2. Halvår****Den hellige Koranen:**

- ◆ Sura Al Lahab med oversettelse
- ◆ Sura Al Baqarah: første 14 vers

Hadith: beretning nummer 11 og 12 med oversettelse.

Bønn:

- ◆ Bønn ved bryting av faste (*iftar*)
- ◆ Bønn ved faste (*imsak*) med oversettelse

Guds attributter: attributt nummer 16-18 med oversettelse.

Islam har fem søyler som legger grunnlaget for tro og praksis. Derfor er det viktig at enhver muslim strever etter å etterleve dem med den ytterste oppriktighet:

1. Trosbekjennelse (Shahadat): en muslim bevitner og anerkjenner at Gud er en og at den hellige Profeten Muhammad^{saw} er Hans Sendebud.

2. Bønn (Salat): dette er spesiell form for tilbedelse som utføres fem ganger om dagen. Enhver muslim er pålagt å be disse bønnene.

3. Faste (Sawm): dette er en annen form for tilbedelse der det er forbudt å spise fra soloppgang til solnedgang. Muslimer er

| | |
|--------------|--------------------------------|
| پیشوا | رہنما |
| دلبر | بہت پیارا |
| پیغمبر | نبی |
| خیر الوریٰ | بہترین مخلوق (آنحضور ﷺ کا لقب) |
| قمر | چاند |
| بدرد اللہ جی | اندھیری رات کا چاند |
| وارے | قربان |

اردو: ابتدائی اردو قاعدہ سے لکھنا اور پڑھنا۔ دو، تین یا اس سے زیادہ حروف کے توڑ جوڑ کریں مثلاً ک + ر + س + ی = کرسی وغیرہ۔ جملے بنائیں۔

آداب زندگی: مسجد کے آداب

دوسری ششماہی

حصہ قرآن: سورۃ الہب بمعہ ترجمہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 14 آیات

حصہ احادیث: حدیث نمبر 11، 12 بمعہ ترجمہ

حصہ دعا: روزہ رکھنے کی دعا بمعہ ترجمہ، روزہ افطار کرنے کی دعا

بمعہ ترجمہ

صفات نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 16-18 بمعہ

ترجمہ

ارکان اسلام: ارکان اسلام پانچ ہیں۔ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے

کہ وہ ان پر دل و جان سے عمل کرے۔

کلمہ طیبہ پڑھنا۔ یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

نماز۔ نماز اس خاص عبادت کا نام ہے جو ہر روز پانچ دفعہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز ہر مسلمان کے لئے ضروری اور فرض ہے۔

روزہ۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں صبح سے شام تک کھانا پینا منع ہے۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا مسلمانوں کے لئے فرض ہیں۔

زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور برکت کے ہیں۔ جب کسی مسلمان کے پاس کوئی رقم یا مال اسباب ایک خاص مقدار میں جمع ہو تو سال میں ایک دفعہ ایک

مقررہ حصہ ادا کرنا پڑتا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ رقم غریبوں اور مسکینوں کی

pålagt å faste i løpet av måneden Ramadan.

4. Almisse (Zakat): zakat betyr renhet og velsignelse og er en form for skatt som legges på den summen eller formuen som har vært oppsamlet i over lang tid. Det er pålagt å betale en bestemt andel av denne formuen som går til forsørgelse av fattige og foreldreløse, eller til bruk for religiøs arbeid.

5. Pilegrimsreise (Hadj): dette er også en spesiell form for tilbedelse som varer i en bestemt antall dager. I løpet av denne tiden skal muslimer gå rundt *Kabaen* som ligger i den hellige byen, Mekka, og samtidig utføre andre tilbedelsesritualer. Pilegrimsreisen er kun pålagt dem som har helse, økonomi og mulighet til å utføre den.

Salaât: Fra første *tasbih* til bønningen mellom *sajdah* med oversettelse.

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring: "Velsignet er Muhammad^{saw}, høvding over alle profeter."

Qaseedah: vers nummer 5-6 med oversettelse.

Dikt:

Parde jo te hathae andar ki rah dikhae
Dil yaar se milae woh aashna yehi hai
Woh aj shahe deen hai woh taje mursalin hai,
Woh tayib o ameen hai uski sana yehi hai
Ju raze deen te bhaare usne batae sare
Dolat ka dene wala farma rawa yehi hai
Uss noor pe fida hon uska hi mein hoa hoon,
Woh hai mein cheez kya hon bas faisla yehi hai

Oversettelse av vanskelige ord:

| Ord | Betydning |
|---------------|------------------------|
| Aashna | Bekjent |
| Shahdeen | Kongen over religionen |
| Taje mursalin | Profetenes krone |
| Sanaâ | Lovprisning (ros) |
| Noor | Lys |
| Fida | Viet |

Urdu:

- ◆ Skrive og lese tallene 1-20 og navn på ukedagene på urdu

مدد کے لئے یادین کے ضروری کاموں پر خرچ کی جاتی ہے۔

حج۔ یہ ایک خاص عبادت کا نام ہے جس میں مقررہ ایام میں خانہ کعبہ کا (جو مکہ مکرمہ میں ہے) طواف کیا جاتا ہے اور کچھ اور مقررہ عبادتیں کی جاتی ہیں۔ جو مسلمان حج پر جانے کی ہمت، صحت اور توفیق رکھتا ہو اُس پر زندگی میں ایک دفعہ یہ عبادت فرض ہے۔

حصہ نماز: پہلی تسبیح سے لے کر دو سجدوں کے درمیان کی دعائیں

بمعہ ترجمہ

الہام حضرت مسیح موعودؑ: ”پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار“

قصیدہ: شعر نمبر 6، 5 بمعہ ترجمہ

نظم: پردے جو تھے ہٹائے اندر کی رہ دکھائے

دل یار سے ملائے وہ آشنا یہی ہے

وہ آج شاہ دیں ہے وہ تاج مُر سلین ہے

وہ طیب و امین ہے اُس کی ثناء یہی ہے

جو راز دیں تھے بھارے اُس نے بتائے سارے

دولت کا دینے والا فرماں روا یہی ہے

اُس نور پر فدا ہوں اُس کا ہی میں ہوا ہوں

وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے

(در شمیم)

مشکل الفاظ کے معنی:-

| الفاظ | معنی |
|--------------|---------------|
| آشنا | واقف کار |
| شاہ دیں | دین کا بادشاہ |
| تاج مُر سلین | نبیوں کا تاج |
| ثناء | تعریف |
| نور | روشنی |
| فدا | قربان |

اُردو: ایک سے 20 تک اُردو میں گنتی اور ہفتہ کے دنوں کے نام پڑھنے اور لکھنے آئیں۔

Kunnskapsensum 10-11 år

1. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Sura Al Nas med oversettelse
- ◆ Sura Al Baqarah 17 første vers

Hadith: beretning nummer 13-14 med oversettelse

Bønn:

- ◆ Bønnen etter utført *Namaz* nummer 1 og 2 med oversettelse

Guds attributter: attributt nummer 19-21 med oversettelse

Seks trosartikler

Det er viktig for en muslim å tro på seks konsepter. Disse seks konseptene kaller vi islams trosartikler.

Troen på en Gud

Troen på Guds Engler

Troen på Guds Bøker

Troen på Guds Profeter

Troen på Dommedagen

Troen på konsekvenser for dyd og synd

Salaât: *Tasjhadd* og *Durood Shareef* med oversettelse

Qaseedah: vers nummer 7-8 med oversettelse

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring:

"Det kom en veileder til verden, men han ble ikke akseptert av menneskene. Gud vil legge grunnlaget for hans aksept og åpenbare hans sannhet på et storslagent vis."

Dikt:

Har taraf fikr ko dhorah ke takaya hamne

Koi deen deen-e-Muhammed sa na paya hamne

Koi mazhab nahi esa ke nishan diklae

Ye sammar bagh-e-Muhammed se hi kaya hamne

Hamne islam ko khud tajarba kar ke dheka

تعلیمی نصاب 10-11 سال

پہلی ششماہی

حصہ قرآن: سورۃ الناس بمعہ ترجمہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 17 آیات

حصہ احادیث: حدیث نمبر 14، 13 بمعہ ترجمہ

حصہ دعا: نماز کے بعد کی دعا نمبر 1، 2 بمعہ ترجمہ

صفاتی نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 19-21 بمعہ ترجمہ

ارکانِ ایمان: ہر مسلمان کے لئے (6) چھ باتوں پر ایمان لانا ضروری

ہے ان چھ باتوں کو ارکانِ ایمان کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں

1- اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا

2- اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا

3- اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا

4- اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانا۔

5- قیامت کے دن پر ایمان لانا

6- تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا۔

حصہ نماز: تشہد اور درود شریف بمعہ ترجمہ

قصیدہ: شعر نمبر 7، 8 بمعہ ترجمہ

الہام حضرت مسیح موعودؑ: ”دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اُسے قبول

نہ کیا۔ لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی

ظاہر کرے گا۔“

نظم: ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے

کوئی دین محمدؐ سانہ پایا ہم نے

کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے

یہ شرباغِ محمدؐ سے ہی کھایا ہم نے

ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا

نور ہے نور اُٹھو دیکھو سنایا ہم نے

اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا

کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے

آؤ لوگو کہ یہیں نورِ خدا پاؤ گے

لو تمہیں طورِ تسلی کا بتایا ہم نے (در ثمنین)

Noor he noor utho deko sunaya hamne
Or deenp ko jo deka to kahi noor na tha
Koi diklaye agar haqq koh chupaya hamne
Ao logho ke yahi noore khoda pao ge
Lå tumhe tår tassali ka bataya hamne

Øversettelse av vanskelige ord:

| Ord | Betydning |
|--------|-----------|
| Sammar | Frukt |
| Noor | Lys |
| Haq | Sannhet |
| Tår | Måte |

Urdu:

- ◆ Lage spørsmål til ordene gitt over
- ◆ Lære lese og skrive navn på muslimske og vestlige kalendermåned

Retningslinjer: atferd ved spisebord

2. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Sura Al Nasr med øversettelse
- ◆ Sura Al Baqarah: 4 første vers med øversettelse

Hadith: beretning nummer 15-16 med øversettelse

Bønn:

- ◆ Bønn for når man går inn og ut av huset med øversettelse.

Guds attributter: attributt nummer 22-24 med øversettelse

En kort forklaring på et av islams fem søyler:

Troen på Gud:

Allah er Guds navn, som kun brukes om Gud. Gud er Allmektig, Han har skapt hele universet. Det finnes kun en Gud. Gud er En, uten partnere eller likeverdige. Gud har alltid eksistert og Han vil eksistere for evig. Han er ikke avhengig av noen, men alt avhenger av Ham. Han er Kongen over alt, Han er Allvitende. Ingenting er umulig for

مشکل الفاظ کے معنی:

| معنی | الفاظ |
|-------|-------|
| پھل | ثمر |
| روشنی | نور |
| سچ | حق |
| طریقہ | طور |

اُردو: اوپر دیے گئے مشکل الفاظ کے جملے بنائیں۔ شمسی اور قمری مہینوں کے نام پڑھنے اور لکھنے آئیں۔

آداب زندگی: کھانے کے آداب

دوسری ششماہی

حصہ قرآن: سورة النصر بمعہ ترجمہ، سورة البقرہ کی ابتدائی 4 آیات بمعہ ترجمہ

حصہ احادیث: حدیث نمبر 15، 16 بمعہ ترجمہ

حصہ دعا: گھر سے باہر جانے کی دعا بمعہ ترجمہ، گھر میں داخل ہونے کی دعا بمعہ ترجمہ

صفاتی نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 22-24 بمعہ ترجمہ
ارکان ایمان کی مختصر تفصیل:

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔

اللہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ جو اُس کے سوا اور کسی کے لئے نہیں بولا جاتا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کی ہر چیز اپنی قدرت سے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اُس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں سب اُس کے محتاج ہیں۔ وہ تمام دنیا کا حاکم ہے۔ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ کوئی کام اُس کے لئے مشکل نہیں۔ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور انہیں قبول کرتا ہے۔ وہ سب کو دیکھتا ہے مگر ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ کیوں کہ وہ ایسا نور ہے جس کا کوئی جسم نہیں۔ البتہ ہم اُس کے کاموں سے اسے پہچانتے ہیں جس طرح ہم ہوا کو تو نہیں دیکھ سکتے مگر جب ہوا چلتی ہے تو ہمارا جسم محسوس کرتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ ہوا چل رہی

Ham. Han hører og svarer på alle våre bønner. Gud kan se oss, men vi kan ikke se Ham med våre øyne. Han er et lys uten legeme. Vi opplever Ham gjennom Hans attributter, akkurat som når vi føler vinden på kroppen vår, men likevel ikke klarer å se den. Du finner alle gode ting i Allah, du finner aldri noen feil eller mangler hos Ham.

Salaât: bønn etter resitasjon av Durood Shareef med oversettelse

Qaseedah: vers nummer 9-10 med oversettelse

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring:
"Jeg skal skjenke deg en stor andel av islam"

Dikt:

Khoda ke pak logo ko khoda se nusrat ati hai
Jab ati hai tu phir alam ko ik alam dikathi hai
Woh banti hai hawa or har khasera ko orati hai
Woh ho jati hai ag ar har mukhalif ko jalati hai
Kabhi vo khak ho kar dushmana ke sar pe parti he
Kabhi ho kar woh pani, un pe ik tufaan lati hai
Gharaz rakte nahi hargiz khoda ke kaam bando se
Bhala khalik ke age khalk ki kuch pesh jati hai

Oversettelse av vanskelige ord:

| Ord | Oversettelse |
|----------|-----------------|
| Pak | Ren |
| Nusrat | Bistand, hjel |
| Alaam | Verde |
| Ik alaam | En annen verden |
| Khisera | Veistøv |
| Mukhalif | Fiende |
| Khaak | Sand |
| Khaalik | Skaper |
| Khalk | Skapning |

Urdu:

- ◆ Skriv 10 setninger om hvilken som helst land eller sted
- ◆ Les et avsnitt og lag spørsmål og svar

ہے۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں مگر کوئی عیب یا نقص اُس میں نہیں۔

حصہ نماز: درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں بمعہ ترجمہ

قصیدہ: شعر نمبر 9، 10 بمعہ ترجمہ

الہام حضرت مسیح موعودؑ:

"I shall give you a large party of Islam"

ترجمہ: میں تجھے اسلام کی ایک بہت بڑی جماعت دوں گا۔

نظم: خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے

جب آتی ہے تو پھر عالم کو اک عالم دکھاتی ہے

وہ بنتی ہے ہو اور ہر خس راہ کو اڑاتی ہے

وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے

کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پر پڑتی ہے

کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ اک طوفان لاتی ہے

غرض رکتے نہیں ہر گز خدا کے کام بندوں سے

بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے

(در شمیم)

مشکل الفاظ کے معنی:

| معنی | الفاظ |
|--|---------|
| نیک | پاک |
| مدد | نصرت |
| دُنیا | عالم |
| ایک اور دُنیا | اک عالم |
| راستے کا کوڑا کرکٹ | خس راہ |
| دشمن | مخالف |
| مٹی | خاک |
| پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام | خالق |
| مخلوق | خلق |

اردو: کسی ملک یا جگہ کے بارے میں 10 جملے لکھیں۔ ایک پیرا گراف

پڑھ کر اس میں سے سوال کے جواب دیئے آئیں۔

Kunnskapspensum 11-12 år

1. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Sura Al Asr med oversettelse
- ◆ Sura Al Baqarah: 6 første vers med oversettelse

Hadith: beretning nummer 17-18 med oversettelse

Bønn:

- ◆ Bønn under reise
- ◆ Bønn ved kjøp av et nytt plagg med oversettelse.

Guds attributter: attributt nummer 25-27 fra med oversettelse

En kort forklaring på en av islams trosartikler

Tro på Guds engler

Engler er Guds åndelige skapninger og Guds åndelige soldater. De er syndfrie og er hele tiden opptatt med å oppfylle Allahs påbud. Engler har mange oppgaver, som for eksempel å sette i gang gode tanker hos menneskene. Englene skal gi beskjed fra Gud til Profetene. Profetene mottar åpenbaringer fra Gud gjennom englene. Man kan aldri telle hvor mange engler Gud har, de er uttallige. Vi har kjennskap til flere engler. De fire mest kjente er som følgende:

Hazrat Gabriel^{as}

Hazrat Israel^{as}

Hazrat Mikael^{as}

Hazrat Israfeel^{as}

Salaât:

Dua-e-Qanoot med oversettelse.

Takbir ved Eid

Qaseedah: vers nummer 11-12 med oversettelse

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring:
"Folk vil komme til deg fra alle kanter"

تعلیمی نصاب 11-12 سال

پہلی ششماہی

حصہ قرآن: سورۃ العصر بمعہ ترجمہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 6 آیات

بمعہ ترجمہ

حصہ احادیث: حدیث نمبر 17، 18 بمعہ ترجمہ

حصہ دعا: سواری کی دعا بمعہ ترجمہ، نیا کپڑا پہننے کی دعا بمعہ ترجمہ

صفات نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 25-27 بمعہ ترجمہ

ارکان ایمان کی مختصر تفصیل: فرشتوں پر ایمان لانا۔

فرشتے اللہ تعالیٰ کی روحانی مخلوق ہیں اور روحانی فوج ہیں۔ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے ذمے بہت سے کام ہیں مثلاً لوگوں کے دلوں میں نیک خیالات ڈالنا۔ نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی وحی لانا۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں بتانا وغیرہ۔ فرشتے بے شمار ہیں کوئی انہیں گن نہیں سکتا۔ ان میں سے چار مشہور فرشتے یہ ہیں۔

(1) حضرت جبرائیل علیہ السلام

(2) حضرت عزرائیل علیہ السلام

(3) حضرت میکائیل علیہ السلام

(4) حضرت اسرافیل علیہ السلام

حصہ نماز: دعائے قنوت بمعہ ترجمہ، عید کی تکبیر

قصیدہ: شعر نمبر 11، 12 بمعہ ترجمہ

الہام حضرت مسیح موعود: **يَا تُونَ مِنْ كُلِّ فِجِ عَمِيقِ**

ترجمہ: تیرے پاس لوگ ہر ایک گہرے راستے سے آئیں گے۔

نظم: ایمان مجھ کو دے دے عرفان مجھ کو دے دے

قربان جاؤں تیرے قرآن مجھ کو دے دے

دل پاک کر دے میرا دنیا کی چاہتوں سے

سُبُو حَيَّت سے حصّہ سُبجان مجھ کو دے دے

دل جل رہا ہے میرا فرقت سے تیری ہر دم

جام وصال اپنا اے جان مجھ کو دے دے

کردے جو حق و باطل میں امتیازِ کامل

Dikt:

Iman muj ko de de, irfan mujko de de
 Kurbaan jao tere, Quran mujko de de
 Dil pak kar de mera duniya ki चाहतो से
 Sabohiyat se hissa sobhan mujko de de
 Dil jal raha hai mera, furqat se teri har dam
 Jam-e-visal apna, eh jan mujko de de
 Kar de ja haqq-o-batal main imtiaz-e-kamil
 Eh mere pyare esa furqaan mujj ko de de
 Hum ko teri rafaqat hasil rahe hamesha
 Esa na ha ke dohka shaitan muj ko de de

Øversettelse av vanskelige ord:

| Ord | Betydning |
|----------------|-------------------------------------|
| Irfan | Kjennskap |
| Sabbo haiyat | Guds renhet |
| Subhan | Allah er fri for enhver mangel |
| Furqat | Lengsel |
| Jham vsal | Betatt etter å møte Allah |
| Imtiaz-e-Kamil | Fullkommen forskjell |
| Furqan | Skillet mellom det gode og det onde |

Urdu:

Fylle ut de tomme feltene. For eksempel: Ye kursi _____rang ki hai. Islam ek _____mazhab

Lage spørsmål til ordene gitt over

Retningslinjer: kommunikasjonsatferd

اے میرے پیارے ایسا فرقان مجھ کو دے دے
 ہم کو تیری رفاقت حاصل رہے ہمیشہ
 ایسا نہ ہو کہ دھوکہ شیطان مجھ کو دے دے (کلام محمود)

مشکل الفاظ کے معنی:-

| معنی | الفاظ |
|---------------------------------|--------------|
| پہچان | عرفان |
| اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی | سُبُوْحِیَّت |
| ہر نقص سے پاک | سبحان |
| جدائی | فُرْقَت |
| اللہ سے ملاقات کی شراب کا پیالہ | جام وصال |
| سچ اور جھوٹ | حق و باطل |
| مکمل فرق | امتیا ز کامل |
| حق و باطل میں تمیز کرنے والا | فرقان |

اُردو: خالی جگہ پُر کرنے کی مشق کریں۔ مثلاً یہ کرسی — رنگ کی ہے۔ اسلام ایک — مذہب ہے۔ اوپر دیے گئے مشکل الفاظ کے جملے بنائیں۔

آداب زندگی: گفتگو کے آداب

خلفاء راشدین

1. حضرت ابو بکر صدیقؓ
2. حضرت عمر فاروقؓ
3. حضرت عثمان غنیؓ
4. حضرت علیؓ

2. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Sura Al Takathur med oversettelse
- ◆ Sura Al Baqarah: 8 første vers med oversettelse

Hadith: beretning nummer 19-20 med oversettelse

Bønn:

- ◆ Bønn for å kunne oppriktig godta noe
- ◆ Bønn for at Allah skal være tilstrekkelig i en liv

Guds attributter: attributt nummer 28-30 med oversettelse

En kort forklaring på en av islams seks trosartikler:

Troen på Guds Bøker

Gud sendte bøker til menneskene for deres beste. Disse bøkene ble åpenbart til Guds profeter. Bøkene er rommer retningslinjer og velsignelser. De gir oss retningslinjer for hvordan vi skal leve og unngå blasfemi og synd. De lærer oss hvordan vi skal oppføre oss, og behandle våre medmennesker. Bøkene har fortalt oss om hva Allah misliker. Det er viktig å tro på de hellige Bøkene. Blant alle de bøkene som er blitt åpenbart til profetene, er den hellige Koranen den mest komplette. Koranen ble åpenbart til Profeten Muhammad^{saw}. Koranen er den siste hellige boken som er åpenbart, og den vil vare til verdens ende. Koranen inneholder de gode tingene fra de øvrige bøkene som er blitt åpenbart tidligere. Koranen vil rettlede menneskene til Dommedag

Salaât: "Niyat bønn" til "Dua-e-Qunoot" med oversettelse

Qaseedah: vers nummer 13-14 med oversettelse

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring:

"Jeg vil beskytte enhver som befinner seg innenfor din "bolig"."

Dikt:

دوسری ششماہی

حصہ قرآن: سورۃ البقرہ بمعہ ترجمہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 8 آیات

بمعہ ترجمہ

حصہ احادیث: حدیث نمبر 19، 20 بمعہ ترجمہ

حصہ دعا: اقرار ایمان کی دعا بمعہ ترجمہ، خدا تعالیٰ کی کفایت کی دعا

بمعہ ترجمہ

صفاتی نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 28-30 بمعہ ترجمہ

ارکانِ ایمان کی مختصر تفصیل: اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے

اپنے بندوں کی بھلائی کے لئے کتابیں بھیجی ہیں۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر

نازل ہوئیں۔ یہ کتابیں ہدایت اور راہنمائی سے پُر ہوتی ہیں۔ شرک اور جہالت

کے اندھیروں کو دور کرتی ہیں اور انسان کو دوسرے انسانوں سے حسن سلوک

سکھاتی ہیں۔ ان کتابوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کونسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض

کرنے والے ہیں۔ ان سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبیوں پر نازل

ہونے والی تعلیمات میں سب سے مکمل تعلیم قرآن مجید کی ہے جو حضرت محمد

ﷺ پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کامل اور آخری کتاب ہے۔ اس میں گزشتہ نازل

ہونے والی سب کتابوں کی خوبیاں جمع ہیں اور یہ قیامت تک کے لئے ہے اور

سارے بنی نوع انسان کے لئے ہے اب اسی پر عمل کرنے سے دنیا کو ہدایت مل

سکتی ہے۔

حصہ نماز: نیت نماز سے لے کر دعائے قنوت بمعہ ترجمہ، اقامت

قصیدہ: شعر نمبر 13، 14 بمعہ ترجمہ

الہام حضرت مسیح موعودؑ: اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ

ترجمہ: میں ہر ایک کی جو تیرے "دار" میں ہے حفاظت کرنے والا ہوں۔

نظم: وہ دل مجھے عطا کر جو ہونثار جاناں

جو ہو فدائے دلبر وہ جان مجھ کو دے دے

دنیاے کفر و بدعت کو اس میں غرق کر دوں

طوفانِ نوح سا اک طوفان مجھ کو دے دے

جن پر پڑیں فرشتوں کی ریشک کی نگاہیں

اے میرے محسن ایسے انسان مجھ کو دے دے

دھل جائیں دل بدی سے سینے ہوں نور سے پُر

امراضِ رُوح کا وہ درماں مجھ کو دے دے

Woh dil muje ata kar joh nisar jana
 Joh ho fida-e-dilbar woh jaan mujko de de
 Dunya-e-kufr-o-biddat ka iss mein ghark kar
 do
 Tufan-e-noh sa ik tufan mujj ko de de
 Jin par parre farishto ki rashq ki nigahe
 Eh mere mohsin ese insaan mujj ko de de
 Dhul jaye dil baddi se sine ho noor se por
 Amraz rooh ka va darmaa mujj ko de de
 Ho jaye jis dhili sab falsafe ki chole
 Mere hakim esa burhaan mujj ko de de

Øversettelse av vanskelige ord:

| Ord | Øversettelse |
|---------|--|
| Nasaar | Vie, ofre |
| Dilbar | Kjær |
| Biddat | Nyvinninger i religionen |
| Gharaq | Drukne, gå til grunne |
| Rashq | Misunnelse, nidkjær |
| Mohsin | En som utfører tjeneste |
| Darmah | Grådig |
| Burhaan | Et solid argument |
| Hakim | En klok og helbredende mann, ofte naturmedesiner |

Urdu

- ◆ Les letteste bøker på urdu
- ◆ Lær å bøye ordene i entall og flertall


ہو جائیں جس سے ڈھیلی سب فلسفہ کی چولیں
 میرے حکیم ایسا برہان مجھ کو دے دے

(کلام محمود)

مشکل الفاظ کے معنی:-

| معنی | الفاظ |
|--|---------|
| قربان | نثار |
| پیارا | دلبر |
| دین میں کوئی نئی بات نکالنا | بدعت |
| ڈوبنا | غرق |
| یہ آرزو کہ دوسرے کی چیز مجھے بھی مل جائے | ریشک |
| احسان کرنے والا | مُحْسِن |
| علاج | درماں |
| دلیل جس میں شک نہ ہو | برہان |
| عقل مند، علاج کرنے والا | حکیم |

اُردو: آسان اُردو میں کتاب پڑھیں۔ واحد اور جمع کی مشق کریں۔ مثلاً کتاب، کتابیں۔ دروازہ، دروازے۔ روٹی، روٹیاں وغیرہ



﴿ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دُنیا بھی منور ہو جاتی ہے اور دین بھی۔ ﴾

﴿ نماز آنے والی بلاؤں کا علاج ہے۔ ﴾ (ارشادات حضرت مسیح موعودؑ)

Kunnskapspensum 12-13 år

1. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Sura Al Teen med oversettelse
- ◆ Sura Al Baqarah: første 10 vers med oversettelse.

Hadith: beretning nummer 21 og 22 med oversettelse.

Bønn:

- ◆ Bønn for å unngå de onde ting med oversettelse
- ◆ Bønn om hjelp og støtte med oversettelse.

Guds attributter: attributt nummer 31-33 med oversettelse

Forklaring på en av de seks trosartiklene i islam:

Troen på Guds profeter

Ordet profet betyr "de som forkynner budskap fra Gud og sprer dem videre til verden." Guds profeter er sanne. Gud hjelper sine profeter. Gud har sendt sine profeter til hver eneste nasjon, land, og til en hver tid. De følger Guds ord.

Noen kjente profeter er: Hazrat Adam^{as}, Hazrat Noa^{as}, Hadrat Abraham^{as}, Hazrat Ismael^{as}, Hazrat Isak^{as}, Hazrat Jakob^{as}, Hazrat Moses^{as}, Hazrat Jesus^{as}, Hazrat Muhammad^{saw}. Profeten Muhammad^{saw} er alle profeters segl. Det vil aldri komme en profet som profeten Muhammed^{saw}. Gud sendte han for hele universet.

Salaât: "Niyat-bønn" til "Dua-e-Qanoot" med oversettelse og bønnen etter Adhan

Qaseedah: vers nummer 15 og 16 med oversettelse

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring: "Den som tenker på å ydmyke deg, skal Jeg ydmyke"

تعلیمی نصاب 12-13 سال

پہلی ششماہی

حصہ قرآن: سورۃ التین بمعہ ترجمہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 10 آیات

بمعہ ترجمہ

حصہ احادیث: حدیث نمبر 21، 22 بمعہ ترجمہ

حصہ دعا: برائی سے پناہ طلب کرنے کی دعا بمعہ ترجمہ، مدد اور

نصرت کی دعا بمعہ ترجمہ

صفاتی نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 31-33 بمعہ ترجمہ

ارکانِ ایمان کی مختصر تفصیل:

اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانا: نبی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے غیب کی خبریں

پاک کر دنیا کو بتانے والا۔ خدا کے نبی نیک اور سچے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی

طرف سے دنیا کی ہدایت کے لئے آتے ہیں۔ نبی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کے

احکام بتاتا ہے۔ انہیں پاک بناتا ہے۔ کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود

اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر ملک اور ہر زمانہ میں اپنے

نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ وہ اللہ کی باتوں پر اس طرح عمل کرتے ہیں کہ لوگوں

کے لئے روشنی کا مینار بن جاتے ہیں جن کی پیروی کرنا باعث نجات ہے۔ ان

انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی جاتی ہے۔ بعض مشہور انبیاء کے نام یہ

ہیں: حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ

السلام۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت یعقوب

علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت محمد

ﷺ خاتم النبیین سب نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کے مرتبے اور درجے کا

نبی نہ کوئی آیا اور نہ آئے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے نبی بنا کر

بھیجا ہے۔

حصہ نماز: نیت نماز سے لے کر دعائے قنوت بمعہ ترجمہ، اذان کے

بعد کی دعا

قصیدہ: شعر نمبر 15، 16 بمعہ ترجمہ

الہام حضرت مسیح موعودؑ: لَئِيْ مُّهِينٍ مِّنْ اَرَادَ لِهَآذِيْكَ

ترجمہ۔ میں اس کی اہانت کروں گا جو تیری اہانت کا ارادہ کرے گا۔

نظم: اک نہ اک دن پیش ہو گا تو فنا کے سامنے

چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے

Dikt:

Ik na ik din pesh ho ga to khuda ke samne
Chal nahin sakti kisi ki kuch qaza ky samne
Chorni ho gi tujhe dunaye fani ek din
Har koi majboor hai hokme khuda ke samne
Mustakil rehna hai lazim e bashar tujh ko
sada
Ranjo gham jas o alam ke samne
Bargahe izdi se tu na jon majos ho
Mushkilen keya cheez hai mushkil-kosha ke
samne

Oversettelse av vanskelige ord:

| Ord | Oversettelse |
|-----------------|-----------------|
| Fani | Midlertidig |
| Bashar | Menneske |
| Yas | Skuffelse |
| Alm | Sorg |
| Bala | Ulykke |
| Bar Gah-e-yizdi | Stå overfor Gud |

Urdu:

- ◆ les en lettlest bok på urdu og skriv sammendrag av det som har blitt lest.
- ◆ Sett sammen setninger ved å bruke de vanskelige ordene fra diktet over.

Retningslinjer: respekt mot foreldre

2. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Sura Al Inshirah med oversettelse
- ◆ Sura Al Baqarah første 12 vers med oversettelse.

Hadith: beretning nummer 23 og 24 med oversettelse

Bønn:

- ◆ Bønn om standhaftighet og hjelp mot de vantro
- ◆ Bønn om støtte ved katastrofe

Guds attributter: attributt nummer 34-36 med oversettelse

Forklaring på et av islams trosartikler:

چھوڑنی ہوگی تجھے دنیائے فانی ایک دن
ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے
مستقل رہنا ہے لازم اے بشر تجھ کو سدا
رنج و غم یاس و الم فکر و بلا کے سامنے
بارگاہِ ایزدی سے تونہ یوں مایوس ہو

(در شمین) مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے

مشکل الفاظ کے معنی:

| معنی | الفاظ |
|------------------|---------------|
| عارضی، مٹنے والی | فانی |
| انسان | بشر |
| مایوسی | یاس |
| دکھ | الم |
| مصیبت | بلا |
| خدا کے سامنے | بارگاہِ ایزدی |

اُردو: اُردو کی کوئی آسان کتاب پڑھیں اور ہر ہفتہ جو پڑھا ہو اُس کا اُردو میں خلاصہ لکھیں۔ اوپر دیے گئے مشکل الفاظ کے جملے لکھیں۔
آداب زندگی: والدین کے آداب

دوسری ششماہی

حصہ قرآن: سورۃ الم نشرح بمعہ ترجمہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی

12 آیات بمعہ ترجمہ

حصہ احادیث: حدیث نمبر 23، 24 بمعہ ترجمہ

حصہ دعا: ثابت قدمی اور کافروں پر مدد پانے کی دعا بمعہ ترجمہ،

تلافی نقصان کی دعا بمعہ ترجمہ

صفات نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 34-36 بمعہ

ترجمہ

ارکانِ ایمان کی مختصر تفصیل: قیامت کے دن پر ایمان لانا:

ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ سب فنا ہو جائیں گے پھر سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور ان کا حساب کتاب لے گا۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ اگر ہم نے اچھے اور نیک کام کئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انعام دے گا اور جنت میں داخل

Troen på Dommedagen

Det vil komme en dag da alt vi fordufte for alltid. Og da vil Gud vekke alle fra døden og alle skal bli spurt om deres liv og handlinger. Dette er Dommedagen. Hvis vi har utført gode handlinger i løpet av livet, vil vi bli belønnet, og vi får entre Himmelenes porter. Gud kan tilgi den Han vil ettersom han er Herre over alle ting.

Salaât:

- ◆ "Niyat-bønn" bønn til Dua-e-Qanoot med oversettelse
- ◆ Begravelsesbønn

Qaseedah: vers nummer 17 og 18 med oversettelse

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring:
"Ikke sett din lit til det midlertidige liv."

Dikt:

Hajate pori kare ge keya teri ajiz bashar
Kar bayan sab hajate hajat-rawah ke samne
Chahiye tujh ko mitana kalb se naksh-e-doi
Sar jhuka bas malik-e-arz-o-sama ke samne
Chahiye nafrat badi se or neki se payar
Ek din jana hai tujh ko bhi Khuda ke samne
Rasti ke samne kab jhot phalta hai bhala
Kadr kiya pathar ki lale bebaha ke samne

Oversettelse av vanskelige ord:

| Ord | Oversettelse |
|--------------|-----------------------------------|
| Hajat | Behov |
| Hajat-rawah | Han som dekker alle behov |
| Kalb | Hjerte |
| Naksh-e-doi | Et bilde/en ide om annet menneske |
| Arz-o-sama | Jord og himmel |
| Rasti | Sannhet |
| Lal-e-bebaha | Verdifull stein |

Urdu:

- ◆ Les et utdrag om en kjent person og skriv et sammendrag på 150 ord.
- ◆

کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے گناہ معاف کر دے کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور جس طرح چاہے کرے۔

حصہ نماز: نیت نماز سے لے کر دعائے قنوت بمعہ ترجمہ، دعائے

جنازہ

قصیدہ: شعر نمبر 17، 18 بمعہ ترجمہ

الہام حضرت مسیح موعودؑ: "مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار"

ترجمہ: اس ناپائیدار زندگی پر بھروسہ مت کرو

نظم: حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر

کریاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے

چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقشِ دوئی

سر جھکا بس مالکِ ارض و سما کے سامنے

چاہیے نفرتِ بدی سے اور نیکی سے پیار

ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے

راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا

قدر کیا پتھر کی لعل بے بہا کے سامنے (در شمین)

مشکل الفاظ کے معنی:

| معنی | الفاظ |
|---------------------------|------------|
| ضرورتیں | حاجتیں |
| ضرورت پوری کرنے والا | حاجت روا |
| دل | قلب |
| کسی دوسرے کا تصور یا خیال | نقشِ دوئی |
| زمین و آسمان | ارض و سما |
| سچائی | راستی |
| بڑھتا، ترقی پاتا | پھلتا |
| قیمتی پتھر | لعل بے بہا |

اُردو: کسی شخصیت کے بارے میں پڑھیں اور اس کے بارے میں اپنے

الفاظ میں 150 الفاظ لکھیں۔

Kunnskapsensum 13-14 år

1. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Sura Al Qadr med oversettelse
- ◆ Sura Al Baqarah: første 14 vers med oversettelse.

Hadith: beretning nummer 25 og 26 med oversettelse.

Bønn:

- ◆ Bønn om barmhjertighet og tilgivelse med oversettelse
- ◆ Bønn om tilgivelse med oversettelse

Guds attributter: attributt nummer 37-39 med oversettelse

En kort forklaring om en av Islams trosartikler:

Troen på det gode og ondes skjebne: Et menneske utfører en handling med sin vilje og styrke, og dens belønning foreligger hos Gud. Et menneske som prøver å oppnå sine mål ved hjelp av Guds vilje og styrke vil kunne oppnå det, og dette vil være hans skjebne. Folk tror at skjebnen er forutbestemt, og alt som skjer i deres liv er nedskrevet fra før. Men Gud har fortalt oss alt om det gode og onde. Utfører du gode handlinger vil du motta belønning for det. Utfører du dårlige handlinger vil du motta straff. Mennesker har blitt tildelt fri vilje og kan derfor gjøre som de vil. Det er bare Gud som vet hvilke handlinger et menneske vil utføre i framtiden. For eksempel når en lærer sier til sin elev at han kommer til å stryke på en prøve, og hvis eleven styrker man ikke kunne skyldes på lærerens advarsel. Det vil være et resultat av at eleven ikke jobbet hardt nok. Gud har ikke tvunget noen til å utføre de handlingene de gjør, et menneske velger selv sitt handlingsmønster.

Salaât: Fra "Niyat-bønn" til Dua-e-Qanoot med oversettelse samt begravellesbønnen

تعلیمی نصاب 13-14 سال

پہلی ششماہی

حصہ قرآن: سورۃ القدر بمعہ ترجمہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 14 آیات

بمعہ ترجمہ

حصہ احادیث: حدیث نمبر 25، 26 بمعہ ترجمہ

حصہ دعا: بخشش اور رحم کی دعا بمعہ ترجمہ، مغفرت چاہنے کی دعا

بمعہ ترجمہ

صفاتی نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 37-39 بمعہ ترجمہ

ارکانِ ایمان کی مختصر تفصیل:

تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا: انسان اپنی کوشش اور محنت سے ایک کام کرتا ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے علم اور مرضی کے مطابق ملتا ہے۔ انسان کی کوشش اور محنت کو تدبیر اور خدا تعالیٰ کی مرضی اور اس کے علم کے مطابق نتیجہ نکلنے کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر سے مراد یہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں جو کچھ کسی انسان کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہے۔ تقدیر سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نیکی اور بدی کو خوب کھول کر سمجھا دیا ہے اگر اچھا کام کرو گے تو نیک جزاء ملے گی اور اگر برا کام کرو گے تو سزا ملے گی۔ اب انسان آزاد ہے کہ جو چاہے اختیار کرے۔ خدا تعالیٰ کے پاس لکھے ہوئے سے مراد صرف یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اسے علم ہے کہ فلاں شخص نے کل کیا کرنا بس اس کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی استاد کسی نالائق شاگرد کے متعلق کہے کہ وہ فیل ہو جائے گا اور وہ فیل ہو جائے تو اس کا فیل ہونا استاد کے کہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اپنی نالائقی کی وجہ سے ہے۔ پس خدا کے لکھے ہوئے پر عمل کرنا انسان کا اپنا فعل ہے خدا نے اسے مجبور نہیں کیا۔

حصہ نماز: نیت نماز سے لے کر دعائے قنوت بمعہ ترجمہ، دعائے

جنازہ بمعہ ترجمہ

قصیدہ: شعر نمبر 19، 20 بمعہ ترجمہ

الہام حضرت مسیح موعود: قادر ہے وہ بارگہ ٹوٹا کام بناوے

بنانا یا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے

نظم: اے دوستو جو پڑھتے ہو ام الکتاب کو

اب دیکھو میری آنکھوں سے اس آفتاب کو

Qaseedah: vers nummer 19 og 20 med oversettelse

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring :
"Gud besitter alle evner; Han er i stand til å gjenopprette det ødelagte, og Han kan tilintetgjøre det som er skapt. Ingen har kjennskap til Hans hemmeligheter."

Dikt:

Ae dosto jo parhte ho umm-ul-Kitab ko
Ab dekho meri ankho se is aftab ko
Socho duae fateha ko parh ke bar bar
Karti hai yeh tamam haqiqat ko ashkar
Dekho khuda ne tum ko batai dua yahi
Us ke habib ne bhi parhai dua yahi
Parhte ho panj wakt isi ko namaz me
Jate ho is ki rah se dar-e-beneyaz me

Oversettelse av vanskelige ord:

| Ord | Oversettelse |
|--------------|-----------------------|
| Umm-ul-Kitab | Bokens Mor |
| Aftab | Sol |
| Ashkar | Blottet |
| Habib | Elskede |
| Panj Waqt | Fem ganger |
| Beneyaz | Fri og uten bekymring |

Urdu:

- ◆ Les en litlest bok på urdu og skriv et sammendrag av det som har blitt lest hver uke.

Retningslinjer: atferd under Salaât

سوچو دعاء فاتحہ کو پڑھ کے بار بار
کرتی ہے یہ تمام حقیقت کو آشکار
دیکھو خدا نے تم کو بتائی دعا یہی
اُس کے حبیب نے بھی پڑھائی دعا یہی
پڑھتے ہو پنج وقت اسی کو نماز میں

جاتے ہو اس کی رہ سے در بے نیاز میں
(در شمین)

مشکل الفاظ کے معنی:

| معنی | الفاظ |
|---------------|------------|
| کتابوں کی ماں | اُم الکتاب |
| سورج | آفتاب |
| ظاہر | آشکار |
| پیارا | حبیب |
| پانچ وقت | پنج وقت |
| بے پرواہ | بے نیاز |

اُردو: اُردو کی کوئی آسان کتاب پڑھیں اور ہر ہفتہ جو پڑھا ہو
اُس کا اُردو میں خلاصہ لکھیں۔
آداب زندگی: نماز کے آداب



2. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Ayat-ul-Kursi med oversettelse
- ◆ Sura Al Baqarah: første 17 vers med oversettelse.

Hadith: beretning nummer 27 og 28 med oversettelse

Bønn:

- ◆ Bønn om standhaftighet og trofasthet under gode og onde dager

Guds attributter: attributt nummerr 40-42 med oversettelse

Betingelser for Bai'at: nummer 1 og 2

Salaât:

- ◆ Fra "Niyat-bønn" til Dua-e-Qanoot med oversettelse
- ◆ Bønnen etter Adhan

Qaseedah: vers nummer 19 og 20 med oversettelse

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring:

“Jeg skal åpenbare Min makt og Jeg vil forhøye det med Min styrke.”

Dikt:

Us ki kasam keh jis ne yeh surat otari hai
Us pak dil pe jis ki woh surat piyari hai
Yeh mere rabb se mere liye ik gawah hai
Yeh mere sidq-e-dawa pe mohr-e-Ala hai
Mere masih hone pe yeh ik dalil hai
Mere liye yeh shahid-e-rabb-e-jaleel hai
Phir mere baad auro ki hai intezar kiya
Toba karo keh jine ka he etebar kiya

Oversettelse av vanskelige ord:

| Ord | Oversettelse |
|------------|-------------------------------|
| Sidq | Sannhet |
| Mohr-e-Ala | Guds segl, bevis |
| Dalil | Bevis |
| Shahid | Vitne |
| Jaleel | Vis, storslått, høyerestående |

Urdu:

- ◆ Les en letlest bok på urdu bok og
- ◆ Skriv et sammendrag på urdu om det som har blitt lest hver uke

Retningslinjer: atferd ved resitasjon av Koranen

دوسری ششماہی

حصہ قرآن: آیت الکرسی بمعہ ترجمہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی

17 آیات بمعہ ترجمہ

حصہ احادیث: حدیث نمبر 27، 28 بمعہ ترجمہ

حصہ دعا: حصول خیر کی عاجزانہ دعا بمعہ ترجمہ، دعائے تمنار حمت

باری تعالیٰ بمعہ ترجمہ

صفاتی نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 40-42 بمعہ ترجمہ

شرائط بیعت: نمبر 1، 2

حصہ نماز: نیت نماز سے لے کر دعائے قنوت بمعہ ترجمہ، اذان کے

بعد کی دعا بمعہ ترجمہ

قصیدہ: شعر نمبر 19، 20 بمعہ ترجمہ

الہام حضرت مسیح موعودؑ: ”میں اپنی چمکار دکھاؤں گا اور اپنی قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا۔“

نظم:

اُس کی قسم کہ جس نے یہ سورۃ اُناری ہے
اُس پاک دل پہ جس کی وہ صورت پیاری ہے
یہ میرے رب سے میرے لئے اک گواہ ہے
یہ میرے صدقِ دعویٰ پہ مہر الہ ہے
میرے مسیح ہونے پہ یہ اک دلیل ہے
میرے لئے یہ شاہدِ ربِ جلیل ہے
پھر میرے بعد اوروں کی ہے انتظار کیا
تو بہ کرو کہ جینے کا ہے اعتبار کیا (در شمیم)

مشکل الفاظ کے معنی:

| معنی | الفاظ |
|---------------------------|---------|
| سچائی | صدق |
| اللہ تعالیٰ کی مہر، تصدیق | مہر الہ |
| ثبوت | دلیل |
| گواہ | شاہد |
| بزرگ، بڑا، اعلیٰ، افضل | جلیل |

اُردو: اُردو کی کوئی آسان کتاب پڑھیں اور ہر ہفتہ جو پڑھا ہو

اُس کا اُردو میں خلاصہ لکھیں۔

آداب زندگی: قرآن کریم کی تلاوت کے آداب

Kunnskapspensum 14-15 år

1. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Sura Al Qari'ah med oversettelse
- ◆ Sura Al Baqarah: første 9 vers med oversettelse

Hadith: beretning nummer 29 og 30 med oversettelse

Bønn:

- ◆ Bønn om suksess med oversettelse
- ◆ Bønn om å søke tilflukt fra vanskeligheter med oversettelse

Guds attributter: attributt nummer 43-45 med oversettelse

Betingelser for Bai'at: nummer 3 og 4

Salaât:

- ◆ Fra "Niyat-bønn" til Dua-e-Qanoot.
- ◆ Oversettelse av *Iqamat*.

Qaseedah: de første 10 versene med oversettelse

Den utlovede Messias^{as} sin åpenbaring:
"Igjen kom våren og Guds ord ble oppfylt"

Dikt:

Jamal-o-husn-e-Koran jane har musalma hai
Qamar hai chand auro ka hamara chand
Koran hia

Nazeer os ki nahin jamti nazar main fikr kar
dekha

Bhala kio kar na ho yakta kalam-e-pak
rehman hai

Bahare ja vida peda hai os ki har ibarat main
Na woh khobi chaman main hai na us sa koi
bostan hai

Kalame pak yazdan ka koi sani nahin har giz
Agar lo loe umma hai wagar lal-e-
badakhshan hai

Oversettelse av vanskelige ord:

| | |
|------------|---------------------|
| Ord | Oversettelse |
| Jamal | Vakker |

تعلیمی نصاب 14-15 سال

پہلی ششماہی

حصہ قرآن: سورۃ القارعہ بمعہ ترجمہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 9 آیات

بمعہ ترجمہ

حصہ احادیث: حدیث نمبر 29، 30 بمعہ ترجمہ

حصہ دعا: طلب کامیابی کی دعا بمعہ ترجمہ، مصیبت سے نجات

حاصل کرنے کی دعا بمعہ ترجمہ

صفاتی نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 43-45 بمعہ ترجمہ

شرائط بیعت: نمبر 3، 4

حصہ نماز: نیت نماز سے لے کر دعائے قنوت بمعہ ترجمہ، اقامت

بمعہ ترجمہ

قصیدہ: پہلے 10 اشعار بمعہ ترجمہ

الہام حضرت مسیح موعودؑ: ”پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی“

نظم: جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے

قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے

نظیر اُس کی نہیں جتنی نظر میں فکر کر دیکھا

بھلا کیونکر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے

بہار جاوداں پیدا ہے اُس کی ہر عبارت میں

نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اُس سا کوئی بستان ہے

کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہر گز

اگر لوئے عُماں ہے وگر لعل بدخشاں ہے (در شمین)

مشکل الفاظ کے معنی:

| معنی | الفاظ |
|------------|------------|
| خوبصورتی | جمال |
| مثال | نظیر |
| اکیلا | یکتا |
| مہربان | رحماں |
| سدا، ہمیشہ | جاوداں |
| باغ | چمن، بستان |
| خدا تعالیٰ | یزداں |

| | |
|-------------|-----------------|
| Nazir | Unik |
| Yakta | Alene |
| Rehman | Barmhjertig |
| Jaweda | Evig |
| Chamman | Hage |
| Yazdan | Gud |
| Lo lo-e-ama | Verdifull perle |

Urdu: Prøv å lese litt urdu hver dag. Les gjerne lettleste bøker på urdu og skriv et sammendrag om det som har blitt lest.

Retningslinjer: atferd i moskeen

2. Halvår

Den hellige Koranen:

- ◆ Repeter alle de gjennomgatte kapitlene tidligere i pensum
- ◆ Sura Al Baqarah: første 17 vers

Hadith: beretning nummer 1-30.

Bønn:

- ◆ Bønnene foreslått i anledning for Kalifatets hundreårsjubileum med oversettelse.

Guds attributter: attributt nummer 46-50 med oversettelse.

Betingelser for Bai'at: nummer 5 og 6.

Salaât:

- ◆ Oversettelse av "Niyat-bønn" til Dua-e-Qanoot.
- ◆ Oversettelse av bønn ved dødsfall.
- ◆ Repeter bønn etter Adhan.

Qaseedah: vers nummer 11-20 med oversettelse.

Dikt: repeter samtlige dikt fra pensum.

Urdu:

- ◆ Prøv å lese litt urdu hver dag.
- ◆ Les gjerne lettleste bøker på urdu og skriv et sammendrag om det som har blitt lest.

Retningslinjer: bordskikk

Merk: Dette er siste del av pensum; repeter hele pensumet

لؤلؤے عماں قیمتی موتی

اُردو: روزانہ اُردو میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں۔ اُردو کی کوئی آسان کتاب پڑھیں اور ہر ہفتہ جو پڑھا ہو اُس کا اُردو میں خلاصہ لکھیں۔
آداب زندگی: مسجد کے آداب

دوسری ششماہی

حصہ قرآن: گذشتہ ساری سورتوں کی دہرائی کی جائے، سورۃ البقرہ

کی ابتدائی 17 آیات

حصہ احادیث: حدیث نمبر 1 تا 30 کی دہرائی کی جائے۔

حصہ دعا: خلافت جوہلی کی دعائیں بمعہ ترجمہ یاد کریں۔

صفاتی نام: اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نمبر 46-50 بمعہ ترجمہ

شرائط بیعت: نمبر 5، 6

حصہ نماز: نیت نماز سے لے کر دعائے قنوت بمعہ ترجمہ، دعائے

جنازہ، اذان کے بعد کی دعا کی دہرائی کریں۔

قصیدہ: شعر نمبر 11-20 تک بمعہ ترجمہ دہرائی کی جائے

نظم: گذشتہ نصاب میں دی گئی نظموں کی دہرائی کریں۔

اُردو: روزانہ اُردو میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں۔ اُردو کی کوئی

آسان کتاب پڑھیں اور ہر ہفتہ جو پڑھا ہو اُس کا اُردو میں خلاصہ لکھیں۔

آداب زندگی: کھانے کے آداب

نوٹ: یہ ششماہی آپ کی ناصر ات میں آخری ششماہی ہے اس لئے گذشتہ تمام

نصاب کی دہرائی کی جائے۔

حصہ قرآن



سورة البقره کی ابتدائی سترہ آیات Første 17 vers av Sura Al-Baqarah

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

[2:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہارحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evige barmhjertige

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَبِالْآخِرَةِ
هُمْ يُوقِنُونَ ①

[2:5] اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

Og som tror på det som er blitt åpenbart deg, og på det som er blitt åpenbart før deg, og som er sikre på det kommende (som er lovet dem).

الْم ②

[2:2] انا اللہ اعلم: میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔

Alif Lâm Mîm (Jeg er Allah, den Allvitende)

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ①

[2:6] یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔

Disse er de som følger rettledningen fra sin Herre, og disse er de som vil fullkommengjøres

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ③

[2:3] یہ ”وہ“ کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔

Dette er den (fullkomme) Bok, dette er det ingen tvil om, en rettledning for de rettfærdige,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑦

[2:7] یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا (اس حال میں کہ) برابر ہے ان پر خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

Sannelig de som er vantro, for dem er det samme om du advarer dem, eller ikke advarer dem, de kommer ikke til å tro.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ④

[2:4] جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

(for) dem som tror på det usette, og som holder bønn (regelmessig), og som gir av det Vi forsyner dem med.

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ
مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ بِمَا كَانُوا
يَكْذِبُونَ ۞

[2:11] ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ پس اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا۔ اور ان کے لئے بہت دردناک عذاب (مقدر) ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

I deres hjerter er det en sykdom, og Allah har latt deres sykdom tilta, og for dem er den en smertelig straff fordi de løy.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞

[2:12] اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں۔

Og når det blir sagt til dem: Stift ikke utfred på jorden, så svarer de: Vi er folk som kun stifter fred.

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ
لَّا يَشْعُرُونَ ۞

[2:13] خبردار! یقیناً وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔

Men nei, det er visselig de som stifter ufred, men de forstår det ikke.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا
أَنُؤْمِنُ بِكَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ
هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَّا يَعْلَمُونَ ۞

[2:14] اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ
وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۞ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞

[2:8] اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی شنوائی پر بھی۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور ان کے لئے بڑا عذاب (مقدر) ہے۔

Allah har forseglet deres hjerter og dere ører, og over deres øyne (ligger det) et slør, og for dem er det en betydelig straff.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۞

[2:9] اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور یومِ آخر پر بھی، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

Og blant menneskene er det noen som sier: Vi tror på Allah og den Ytterste dag, men (egentlig) tror de ikke.

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ۞

[2:10] وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اور وہ شعور نہیں رکھتے۔

De forsøker å bedra Allah og de troende, men de bedrar bare seg selv, og de vet det ikke.

[2:17] یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔
پس ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہو سکے۔

Disse er de som har kjøpt seg villfarelse istedenfor rettleddning, så deres handel brakte dem ikke gevinst, og de ble ikke blant de rettlede.



Sura Al-Inshirah

سورة الم نشرح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

[94:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evige barmhjertige

الْمَنْشُرْحُ لَكَ صَدْرَكَ ②

[94:2] کیا ہم نے تیری خاطر تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟

Har Vi ikke utvidet ditt bryst for deg?

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ③

[94:3] اور تجھ سے ہم نے تیرا بوجھ اتار نہیں دیا؟

Og fjernet den byrde fra deg.

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ④

[94:4] جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی۔

som (nesten) hadde brukket din rygg?

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ⑤

[94:5] اور ہم نے تیرے لئے تیرا ذکر بلند کر دیا۔

Og Vi opphøyde ditt ry for deg!

لے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ خبردار! وہ خود ہی تو ہیں جو بے وقوف ہیں۔ لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔

Og når det blir sagt til dem: Tro slik andre tror, så sier de: Skal vi tro slik tåpene tror? Men nei, det er sannelig de selv som er tåper, men de vet det ikke.

وَإِذْ اتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا

خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ①

إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ②

[2:15] اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے اور جب اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو (ان سے) صرف تمسخر کر رہے تھے۔

Og når de møter dem som tror sier de: Vi tror (også), men når de går til sine onde anførere, sier de: Sannelig, vi er med dere. Vi drev bare gjøn.

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدَّهُمْ فِي

طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ③

[2:16] اللہ (ضرور) ان کے تمسخر کا جواب دے گا۔ اور انہیں کچھ عرصہ

مہلت دے گا کہ وہ اپنی سرکشوں میں بھٹکتے رہیں۔

Allah vil (visselig) gjengjelde deres gjøn, og Han lar dem fortsette i sine overtredelser.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰةَ بِالْهُدٰى ④

فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

مُهْتَدِينَ ⑤

[95:2] قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔

Ved fiken og oliven.

وَطُورِ سَيْنِينَ ﴿٣﴾

[95:3] اور طورِ سینین کی۔

og Sinaifjellet.

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٤﴾

[95:4] اور اس امن والے شہر کی۔

Og denne fredens by.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي
أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٥﴾

[95:5] یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ارتقائی حالت میں پیدا کیا۔

Vi har visselig skapt mennesket etter den beste skapelsesplan.

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٦﴾

[95:6] پھر ہم نے اُسے نچلے درجے کی طرف لوٹنے والوں میں سب سے نیچے کو ٹا دیا۔

Deretter vendte Vi det igjen til den laveste (tilstand) av alle lave.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٧﴾

[95:7] سوائے اُن کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے۔ پس اُن کے لئے غیر منقطع اجر ہے۔

Unntagen dem som tror og handler rettfærdig – de vil få en aldri endende belønning.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

[94:6] پس یقیناً تنگی کے ساتھ آسائش ہے۔

Så er det da visselig sammen med trengselen avlastning.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٧﴾

[94:7] یقیناً تنگی کے ساتھ آسائش ہے۔

Ja visselig, sammen med trengselen avlastning.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٨﴾

[94:8] پس جب تو فارغ ہو جائے تو کمر ہمت گس لے۔

Når du da er fri (fra verdslige saker), så anstreng deg.

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٩﴾

[94:9] اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کر۔

og hengi deg (helt) til din Herre.



Sura Al-Tin

سورة التين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

[95:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ ﴿٢﴾

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٤﴾

[97:4] قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

Den (guddommelige) bestemmelsesnatt er bedre enn tusen måneder.

تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحُ فِيهَا

عبدالمنعم بن عبدالمطلب

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٥﴾

[97:5] بکثرت نازل ہوتے ہیں اُس میں فرشتے اور روح القدس اپنے

رب کے حکم سے۔ ہر معاملہ میں۔

I den nedstiger englene og Ånden på deres Herres befaling (med bestemmelser) i enhver sak.

سَلَامٌ فَهِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ﴿٦﴾

[97:6] سلام ہے۔ یہ (سلسلہ) طلوعِ فجر تک جاری رہتا ہے۔

Fred (hersker det) til morgengryets komme.



سورة القارعة Sura Al-Qari'ah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

[101:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے

والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾

[101:2] (خوابِ غفلت سے جگانے والی) ہولناک آواز۔

Den (store) ulykke.

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ ﴿٨﴾

[95:8] پس اس کے بعد وہ کیا ہے جو تجھے دین کے معاملہ میں جھٹلائے؟

Hva kan da etter (dette), gjøre (din tale om) religionen til løgn?

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴿٩﴾

[95:9] کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ اچھا فیصلہ

کرنے والا نہیں؟

Er da ikke Allah, den Beste dommer av alle dommere?



Sura Al-Qadr

سورة القدر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

[97:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے

والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿٢﴾

[97:2] یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے۔

Sannelig, Vi har åpenbart den [Qur'ānen] i (den guddommelige) bestemmelsesnatt.

وَمَا أَدْرِيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٣﴾

[97:3] اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے۔

Og hva skal fortelle deg hva (den guddommelige) bestemmelsesnatt er?

[101:9] اور وہ جس کے وزن ہلکے ہوں گے۔

Men hva angår den, hvis vektskåler er lette (av mangel på gode gjerninger),

فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ۝

[101:10] تو اُس کی ماں ہاویہ ہوگی۔

Helvetes fang vil da være hans tilholdssted.

وَمَا أَدْرَبِك مَاهِيَةٌ ۝

[101:11] اور تجھے کیا سمجھائے کہ یہ کیا ہے؟

Og hva skal fortelle deg hva det er?

نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

[101:12] ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔

(Det er) en flammende ild.



Sura Al-Takathur

سورة التكاثر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

[102:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝

[102:2] تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑنے۔

Innbyrdes kamp (om rikdom) avleder deres oppmerksomhet (fra Allah).

مَا الْقَارِعَةُ ۝

[101:3] وہ ہولناک آواز کیا ہے؟

hva er den (store) ulykke?

وَمَا أَدْرَبِك مَّا الْقَارِعَةُ ۝

[101:4] اور تجھے کیا سمجھائے کہ وہ ہولناک آواز کیا ہے؟

Og hva skal fortelle deg hva den (store) ulykken er?

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ

الْمُبْتُوثِ ۝

[101:5] جس دن لوگ پر اگندہ مٹیوں کی طرح ہو جائیں گے۔

Den dag, da menneskene vil være som spredte møll,

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝

[101:6] اور پہاڑ ڈھکی ہوئی اُون کی طرح ہو جائیں گے۔

og fjellene som kardedet ull.

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝

[101:7] پس وہ جس کے وزن بھاری ہوں گے۔

Hva da den angår, hvis vektskåler er tunge (av gode gjerninger),

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝

[101:8] تو وہ ضرور ایک پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔

han vil da være i et salig liv.

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝

Sura Al-Fil

سورة الفيل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

[105:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝۲

[105:2] کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟

Har du ikke sett hvordan din Herre handlet med elefantens folk?

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝۳

[105:3] کیا اُس نے اُن کی تدبیر کو راہِ گمراہی نہیں کر دیا؟
Gjorde Han ikke deres plan til intet?

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝۴

[105:4] اور اُن پر غول در غول پرندے (نہیں) بھیجے؟
Og Han sendte svermer av fugler ned over dem!

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝۵

[105:5] وہ اُن پر کنکر ملی خشک مٹی کے ڈھیلوں سے پتھراؤ کر رہے تھے۔

Som slynget små steiner av leire mot dem.

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝۳

[102:3] یہاں تک کہ تم نے مقبروں کی بھی زیارت کی۔
inntil dere går i gravene.

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝۴

[102:4] خبردار! تم ضرور جان لو گے۔
Men nei! Dere skal snart få vite.

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝۵

[102:5] پھر خبردار! تم ضرور جان لو گے۔
Nei og atter nei! Snart skal dere få vite!

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝۶

[102:6] خبردار! اگر تم یقینی علم کی حد تک جان لو۔
Nei! Om dere visste med en sikker viten.

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝۷

[102:7] تو ضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے۔
ville dere visselig se Helvetet.

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝۸

[102:8] پھر تم ضرور اُسے آنکھوں دیکھے یقین کی طرح دیکھو گے۔
Deretter ville dere visselig se det med visshetens øyne -

ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ النَّعِيمَ ۝۹

[102:9] پھر اس دن تم ناز و نعم کے متعلق ضرور پوچھے جاؤ گے۔
så skal dere da på denne dag kalles til regnskap for enhver nådegave.

Unntatt de som tror og handler rettferdig og oppfordrer hverandre til sannheten ved å holde fast ved den, og oppfordrer hverandre til utholdenhet mens de selv er utholdende.



Sura Al-Quraish

سورة القريش

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

[106:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار حم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

لَا يَلِفُ قُرَيْشٍ ②

[106:2] قریش میں باہم ربط پیدا کرنے کے لئے۔

For å knytte Quraisj (i kjærlighetens bånd),

الْفِهْمِ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ③

[106:3] (ہاں) اُن میں ربط بڑھانے کے لئے (ہم نے) سردیوں اور گرمیوں کے سفر بنائے ہیں۔

(for å) knytte dem, er deres reiser ved vinter og sommer.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ④

[106:4] پس وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔

La dem da tilbe dette Husets Herre,

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِّلَ ⑤

[105:6] پس اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔

og gjorde dem lik oppspist halm.



Sura Al-Asr

سورة العصر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

[103:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار حم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

وَالْعَصْرِ ②

[103:2] زمانے کی قسم۔

Ved tiden.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ③

[103:3] یقیناً انسان ایک بڑے گھاٹے میں ہے۔

Sannelig, mennesket er i en tilstand av tap.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ④

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ⑤

[103:4] سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے اور حق پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔

Sura Al-Kafirun

سورة الكافرون

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

[109:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ②

[109:2] کہہ دے کہ اے کافرو!

Si: Å dere vantro!

لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ③

[109:3] میں اُس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔
Jeg vil ikke tilbe det dere tilber,

وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ④

[109:4] اور نہ تم اُس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔

og dere vil ikke tilbe det jeg tilber.

وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ⑤

[109:5] اور میں کبھی اُس کی عبادت کرنے والا نہیں بنوں گا جس کی تم نے عبادت کی ہے۔

Heller ikke tilber jeg dem dere tilber,

وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ⑥

[109:6] اور نہ تم اُس کی عبادت کرنے والے بنو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔

og dere ber ikke til Ham jeg tilber.

الَّذِي اٰطَعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ
وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ⑦

[106:5] جس نے انہیں بھوک سے (نجات دیتے ہوئے) کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔

som har gitt dem føde mot sult, og sikkerhet mot frykt.



Sura Al-Kauthar

سورة الكوثر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

[108:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ②

[108:2] یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔

Sannelig. Vi har skjenket deg Kauthar.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَرْ ③

[108:3] پس اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی دے۔

Be derfor til din Herre og frembær offer (i takknemlighet).

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ④

[108:4] یقیناً تیرا دشمن ہی ہے جو اتر رہے گا۔

Det er visselig din fiende som er uten (ry og) avkom.

opphøy da din Herre med lovprisning og be om tilgivelse, da Han visselig er Den som stadig mottar anger.



Sura Al-Lahab

سورة اللهب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

[111:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ②

[111:2] ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔
Abû Lahabs begge hender gikk til grunne, og han (selv også),

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ③

[111:3] اُس کے کچھ کام نہ آیا اُس کا مال اور جو کچھ اُس نے کمایا۔
hans rikdom og det han ervervet nyttet ham ikke,

سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذْ أَتَتْ لَهَبًا ④

[111:4] وہ ضرور ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گا۔
han skal brenne i flammende ild,

وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ⑤

[111:5] اور اُس کی عورت بھی، اس حال میں کہ وہ بہت ایندھن اٹھائے ہوئے ہو گی۔

og han kone (også), som bar brensel (til

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ⑥

ع
٣٤

[109:7] تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔

For dere (er det) deres religion og for meg (er det) min religion.



Sura Al-Nasr

سورة النصر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

[110:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ ②

[110:2] جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی۔
Når Allahs hjelp og seier kommer.

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي

دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ③

[110:3] اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔

og du ser mennesker i flokkevis tre inn Allahs religion.

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ④

ع
٣٥

إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ⑤

[110:4] پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ (اس کی) تسبیح کر اور اُس سے مغفرت مانگ۔ یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔

[112:5] اور اُس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا۔

og ingen er Hans like.



Sura Al-Falaq

سورة الفلق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

[113:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے

والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۲

[113:2] تو کہہ دے کہ میں (چیزوں کو) پھاڑ کر (نئی چیز) پیدا کرنے

والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔

Si: Jeg søker tilflukt hos skapelsens Herre.

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۳

[113:3] اُس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔

mot det onde i alt det Han har skapt,

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۴

[113:4] اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ چھا چکا ہو۔

og fra det onde i tussemørket, når det brer seg,

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثِ فِي الْعُقَدِ ۝۵

[113:5] اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔

og fra det onde fra dem, som blåser på knutene (for å oppløse dem).

bålet).

فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝۱

[111:6] اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا مضبوطی سے بنا ہوا رستہ

ہو گا۔

Rundt hennes hals skal det være en flettet snor (av palmefibre).



Sura Al-Ikhlās

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

[112:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے

والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝۲

[112:2] تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔

Si: Han er Allah, den Eneste,

اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝۳

[112:3] اللہ بے احتیاج ہے۔

Allah, den Uavhengige.

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝۴

[112:4] نہ اُس نے کسی کو جنما اور نہ وہ جنما کیا۔

Han avler ikke, heller ikke er Han født,

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝۵

۱۳۷

menneskehetens Gud,

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

[114:5] بکثرت وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔

mot det onde fra hviskeren som trekker seg tilbake (etter å ha hvisket).

الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝

[114:6] وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
den, som hvisker i (alle) menneskers bryst -

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

[114:7] (خواہ) وہ جنوں میں سے ہو (یعنی بڑے لوگوں میں سے) یا عوام
الناس میں سے

fra djinner og (alminnelige) mennesker.



وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

[113:6] اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔
og fra det onde i misunneren, når han misunner.



Sura Al-Nas

سورة الناس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

[114:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

I Allahs navn, den mest nåderike, den evig barmhjertige.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

[114:2] تو کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔
Si: Jeg søker tilflukt hos menneskehetens Herre,

مَلِكِ النَّاسِ ۝

[114:3] انسانوں کے بادشاہ کی۔
menneskehetens Konge,

إِلَهِ النَّاسِ ۝

[114:4] انسانوں کے معبود کی۔

احادیث

| | |
|--|--|
| <p>9- اَلدُّنْيَا سِجْنٌ لِّلْمُؤْمِنِ وَجَنَّةٌ لِّلْكَافِرِ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔ Denne verden er som et fengsel for den troende og et paradys for den vantro.</p> | <p>1- لَيْسَ الْحَبْرُ كَالْمَعَايِنَةِ نہیں ہے سنی سنائی بات خود دیکھنے کی طرح Å høre om en hendelse av andre, er ikke det samme som å ha observert det selv.</p> |
| <p>10- سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ Et folks leder er i grunnen deres tjener.</p> | <p>2- اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ لڑائی داؤ پیچ کا نام ہے۔ Strategi er et fundament i enhver kamp.</p> |
| <p>11- عِدَّةُ الْمُؤْمِنِ كَأَخِيذِ الْكَفِّ مومن کا وعدہ ایسا سچا ہے جیسے کوئی چیز ہاتھ میں دے دی جائے۔ Et løfte gitt av en troende er så sant som en ting som blir gitt i hånden.</p> | <p>3- اَلْمُسْلِمُ مِرْآةُ الْمُسْلِمِ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ En muslim er som et speil for en annen muslim.</p> |
| <p>12- اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ بچو دوزخ کی آگ سے اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ دے کر۔ Beskytt deg mot helvetes ild om det så er gjennom å ofre en halv daddel.</p> | <p>4- اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ Den som blir rådspurt er pålagt å bevare tilliten.</p> |
| <p>13- اَلسَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ بِغَيْرِهِ سعادت مند وہ ہے جو نصیحت پکڑے اپنے غیر کے حال سے۔ Salig er den som lar seg formane av andres tilstand.</p> | <p>5- لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّانَا وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں جو ہمیں دھوکہ دے۔ Den som bedrar oss er ikke en av oss muslimer.</p> |
| <p>14- اَلْغِنَى غِنَى النَّفْسِ دولتمندی تو دل کی دولتمندی ہے۔ Den virkelige rikdommen er hjertets rikdom.</p> | <p>6- اَلْمَجَالِسُ بِاَلْأَمَانَةِ مجلس امانت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ Forsamlinger burde av holdes i fortrolighet og tillit.</p> |
| <p>15- اَلْحَيَاءُ حَيْرٌ كُلُّهُ جیاسر اسر بہتر ہے۔ Kyskheter er det aller beste.</p> | <p>7- اِسْتَعِينُوا عَلَي الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ مدد چاہو اپنی ضروریات پر رازداری کے ساتھ۔ Søk hjelp i fortrolighet i henhold til dine behov.</p> |
| <p>16- اَلْبَلَاءُ مُؤَكَّلٌ بِاَلْمَنْطِقِ بعض دفعہ مصیبت موقوف ہوتی ہے بات کرنے پر۔ Å snakke (uten å tenke seg om) fører til vanskeligheter.</p> | <p>8- خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا کاموں میں سب سے بہتر میانہ روی والا کام ہوتا ہے۔ I enhver sak er middeelveien den beste.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>25- السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ Reisen er en liten bit av helvetes straff.</p> | <p>17- اَلَّتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ توجہ کرنے والا گناہ سے اس شخص کی طرح ہوتا ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ Den som angret etter en synd, er lik den som aldri har syndet.</p> |
| <p>26- خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى سب سے بہتر زادراہ تقویٰ ہے۔ Den beste provianten for reisen (til det Hinsidige) er gudfryktighet.</p> | <p>18- اَلْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدْعُ الدِّيَارَ بِلَاقِعٍ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر دیتی ہے۔ Falsk ed ruinerer hjemmet.</p> |
| <p>27- اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ Den øverste hånden er bedre enn den nederste.</p> | <p>19- مَا قُلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَالْهَى جو مال تھوڑا اور کافی ہو وہ بہتر ہے بہ نسبت اُس کے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ Den rikdommen som er liten er bedre enn den som er større og fører til forsømmelse.</p> |
| <p>28- لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ En troende burde ikke bryte kontakt med sin troende bror i mer enn tre dager.</p> | <p>20- لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ نہیں شکر کرتا اللہ تعالیٰ کا جو نہیں شکر کرتا بندوں کا۔ Den som ikke er takknemlig overfor mennesker, er ikke takknemlig overfor Allah.</p> |
| <p>29- اَلرَّاجِعُ فِي هَبْتِهِ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ اپنی دی ہوئی چیز واپس لینے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنی تہ چاٹ لے۔ Den som tar tilbake en gave, er lik den som tar tilbake sitt eget oppkast.</p> | <p>21- اَلَّذِي اَلَى الْخَيْرِ كَفَا عَلَيْهِ نیکی پر آگاہ کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ Den som oppfordrer andre til gode handlinger, er lik den som utfører en god handling.</p> |
| <p>30- حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ تیرا کسی چیز سے محبت کرنا اندھا اور بہرہ کر دیتا ہے۔ Din kjærlighet til noe gjør deg blind og døv.</p> | <p>22- النَّاسُ كَا سَنَانِ الْمَشْطِ تمام لوگ کنگھی کے دندنوں کی مانند ہیں۔ Alle mennesker er likeverdige, slik som kammens tagger.</p> |
| <p>31- عَفْوُ الْمُلُوكِ اِبْقَاءٌ لِلْمُلْكِ بادشاہوں کا معاف کر دینا ان کی سلطنت کی بقاء کا باعث ہوتا ہے۔ Kongenes tilgivelse fører til at deres herredømme blir opprettholdt.</p> | <p>23- اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہو۔ Man står ved den man har kjær.</p> |
| <p>32- الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ نماز دین کا ستون ہے۔ Bønnen er religionens pilar.</p> | <p>24- اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ Handlinger avhenger av intensjonen.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>37- إِذَا جَاءَ كُمْ كَرِيمٌ قَوْمٍ فَآكْرِمُوهُ</p> <p>جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔</p> <p>Når en ærverdig person fra et folkeslag kommer til deg, så vis respekt overfor ham</p> | <p>33- الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَاهُ الْعَائِبُ</p> <p>حاضر آدمی وہ کچھ دیکھتا ہے جسے غیر حاضر نہیں دیکھ سکتا۔</p> <p>Den som er tilstede kan se det som den fraværende ikke kan se.</p> |
| <p>38- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْ اُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا يَوْمَ الْحَمِيْسِ</p> <p>اے اللہ برکت دے میری امت کے صبح میں جمعرات کے دن</p> <p>Å, Allah! Velsign torsdagens morgengry for min Ummah.</p> | <p>34- مَنْ قَتَلَ دُوْنَ مَا لِهٖ فَهُوَ شَهِيدٌ</p> <p>جو شخص قتل کیا جاوے اپنے مال کو بچاتے ہوئے تو وہ شہید ہے۔</p> <p>Den som blir drept mens vedkommende beskytter sin eiendom og eiendeler er en martyr.</p> |
| <p>39- اِنَّ مِنْ الشَّعْرِ لِحِكْمَةٌ وَّ اِنَّ مِنَ الْبَيَانَ لَسِحْرًا</p> <p>بعض بعض شعر بڑے پُر حکمت ہوتے ہیں اور بعض بعض تقریریں تو جادو ہوتی ہیں۔</p> <p>Noen vers er rommer visdom og noen foredrag er fortryllende.</p> | <p>35- كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا</p> <p>قریب ہے کہ غریبی کفر بن جائے۔</p> <p>Det er nær forestående at fattigdom leder til fornektelse.</p> |
| <p>40- جُبِلَتْ الْقُلُوْبُ عَلٰى حُبِّ مَنْ اَحْسَنَ اِلَيْهَا</p> <p>بُعْضُ مَنْ اَسَاءَ اِلَيْهَا</p> <p>فطرت میں رکھی گئی ہے دلوں کی محبت، اس شخص کی جو اس کا محسن ہو اور بعض اس شخص کا جو کوئی برائی کرے ان سے۔</p> <p>Det ligger i menneskets natur å elske den som handler godt mot det, og ha nag til den som handler ondt mot det.</p> | <p>36- مَا هَلَكَ اِمْرٌ عَرَفَ قَدْرَهُ</p> <p>نہیں ہلاک ہوا وہ آدمی جس نے پہچان لی اپنی حقیقت۔</p> <p>Den som kjenner sin egen sannhet vil ikke gå til grunne.</p> |



ہجری شمسی ماہ

| | | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|
| جنوری | فروری | مارچ | اپریل | مئی | جون | جولائی |
| اگست | ستمبر | اکتوبر | نومبر | دسمبر | | |

دعائیں

Bordbønn

کھانا کھانے کی دعا

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَاتِهِ اللَّهُ -

ترجمہ - میں اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کی برکت کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔

I Allahs navn, og med Allahs velsignelse (begynner jeg å spise)

Bønn etter endt måltid

کھانے کے بعد کی دعا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

ترجمہ - سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔

All lovprisning tilkommer Allah som skjenket meg føde og drikke og som gjorde meg til en muslim.

Renselsesbønn

وضو کی دعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ -

اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا دے۔

Å Allah, gjør meg til blant de som søker om tilgivelse og de som rene.

Bønn for foreldre

والدین کے حق میں دعا

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا -

ترجمہ - اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انھوں نے مجھے پالا جبکہ میں بچہ تھی۔

Min Herre, vis dem barmhjertighet slik de oppfostret meg som liten.(17:25)

Kunnskapsbønn

اضافہ علم کی دعا

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا -

ترجمہ - اے میرے رب میرے علم کو بڑھا۔

Min Herre, skjenk meg økt kunnskap. (20:115)

Sengebønn

سونے کی دعا

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَ أَحْيَا۔

ترجمہ۔ اے اللہ! میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام سے ہی زندہ ہوتا ہوں۔

Å Allah, det er i ditt navn jeg dør (sovner) og kommer til live igjen (våkner)

Morgenbønn

جاگنے کی دعا

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔

ترجمہ۔ تمام تعریفیں اُس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

All lovprisning tilkommer Allah, som brakte oss tilbake til livet (vekket oss), etter å ha fått oss til å dø (sove), og det er til Ham vi skal vende tilbake til.

Bønn for toalettbesøk

بیت الخلاء جانے کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَبَائِثِ وَ الْحَبَائِثِ۔

ترجمہ۔ اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کی ناپاک چیزوں اور ناپاک کاموں اور باتوں سے۔

Å Allah! Jeg søker tilflukt hos Deg fra alle former for ondt, det være å tale ondt, onde ting eller handlinger.

Bønn etter toalettbesøk

بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَ عَافَانِي۔

ترجمہ۔ تمام تعریفیں اُس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دور کی، اور مجھے عافیت عطا کی۔

All lovprisning tilkommer Allah som beskytter meg fra ondt og skjenker meg alt godt.

Bønn ved inngang av moskeen

مسجد میں داخل ہونے کی دعا

بِسْمِ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول پر سلامتی ہو۔ اے میرے اللہ! میرے گناہ بخش دے اور اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔

I Allahs navn (trer jeg inn) og all velsignelse og fred være med Profeten av Allah. Å Allah! Tilgi meg mine synder og skjenk meg Din nåde.

Bønn ved utgang av moskeen

مسجد سے باہر نکلنے کی دعا

بِسْمِ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول پر سلامتی ہو۔ اے میرے اللہ! میرے گناہ بخش دے اور اپنے فضل کے دروازے مجھ پر کھول دے۔
I Allahs navn (forlater jeg) og all velsignelse og fred være med Profeten av Allah. Å
Allah! Tilgi meg mine synder og skjenk meg Din velsignelse.

Bønn ved faste (imsak)

روزہ رکھنے کی دعا

وَبِصَوْمٍ غَدٍ نُّؤِيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ -

میں رمضان کے اس دن کے روزہ کی نیت کرتا ہوں۔

Jeg bestemmer meg for å overholde fasten denne dagen i måneden Ramadan.

Bønn ved bryting av fasten (iftar)

روزہ افطار کرنے کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُومْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ -

ترجمہ۔ اے اللہ تیرے لئے ہی میں نے روزہ رکھا تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر میں نے توکل کیا اور تیرے ہی رزق سے میں نے افطار کیا۔

Å min Herre, for Din skyld har jeg avholdt fasten, og på Deg alene tror jeg og med ditt føde avslutter jeg det (fasten).

Bønn ved utgang av huset

گھر سے باہر جانے کی دعا

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

ترجمہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اللہ پر توکل کیا اللہ کے سوا کسی کو کوئی قوت یا طاقت حاصل نہیں۔

I Allahs navn trer jeg ut av mitt hjem. Jeg setter min lit til Ham. Det er ingen som besitter noen form for makt eller innflytelse unntagen Allah.

Bønn ved inngang av huset

گھر میں داخل ہونے کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ ، وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَ لَجْنَا وَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا ، وَ عَلَى اللَّهِ
رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا -

ترجمہ۔ اے اللہ! میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی بھلائی اور خیر طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر سے نکلے اور اللہ پر جو ہمارا رب ہے ہم نے توکل کیا۔

Å Allah, jeg søker Din velsignelse og nåde når jeg trer inn i, og forlater huset. Vi både trer inn i, og forlater huset i Allahs navn. Vi setter vår lit til Allah som er vår Herre.

سواری کی دعا

Bønn ved innledning av en reise

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔

ترجمہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے کام میں لگایا اور ہم اس کو قابو میں نہیں لاسکتے اور ہم یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

Hellig er Han (og fri for alle mangler) som har underlagt oss dette transportmiddelet, og vi kunne ikke selv undertvinge det. Og vi skal visselig vende tilbake til vår Herre. (43:14,15)

نیا کپڑا پہننے کی دعا

Bønn ved bruk av nytt plagg

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔

ترجمہ۔ اے اللہ! سب تعریف تیرے لئے ہے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا۔ میں اس کپڑے کی خیر و برکت تجھ سے طلب کرتی ہوں۔ اور وہ خیر و بھلائی بھی جو اس کپڑے کا مقصد ہے۔ اور اے اللہ! میں اس کپڑے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس شر سے بھی جو اس کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔

Å Allah, all lovprisning tilkommer Deg som har iført meg dette plagget. Jeg ber til Deg om å bli skjenket alt godt og Din velsignelse fra dette plagget. Og også det gode som er formålet med dette plagget. Å Allah, jeg søker tilflukt hos Deg fra dette plaggets skadelige virkning og fra den skadelige virkningen bruken av dette plagget kan forårsake.

اقرار ایمان کی دعا

Bønn ved aksept av troen

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ۔ رَبَّنَا أَمَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔

ترجمہ۔ اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ پس تو ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے۔

Vår Herre, vi har hørt en herold som kaller til troen. Vår Herre, vi tror, skriv oss derfor opp blant vitnene. (3:194) og (5:84)

خدا تعالیٰ کی کفایت کی دعا

Bønn for at Allah skal være tilstrekkelig

حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ۔

ترجمہ۔ ہمارے لئے اللہ (کی ذات) کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔

Allah er tilstrekkelig for oss, og en utmerket Beskytter (er Han).(3:174)

برائی سے پناہ طلب کرنے کی دعا

Bønn for beskyttelse mot ondskap

رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ۔

ترجمہ۔ اے میرے رب قید خانہ مجھے ان باتوں سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف لوگ مجھے بلاتے ہیں۔

Å min Herre, fengselet er meg kjærere enn det de inviterer meg til. (12:34)

Bønn om bistand

مدد اور نصرت کی دعا

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَاَنْصُرْنِي وَاَرْحَمْنِي۔

ترجمہ۔ اے میرے رب ہر چیز تیری خادم ہے اے میرے رب پس مجھے محفوظ رکھ اور میری مدد فرما اور مجھ پر رحم فرما۔

Å min Herre, alt er Deg underdanig. Min Herre, beskytt meg derfor og hjelp meg og vis meg barmhjertighet. (Tadhkira)

Bønn om standhaftige seier over de vantro

ثابت قدمی اور کافروں پر مدد پانے کی دعا

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أقدامَنَا وَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ۔

ترجمہ۔ اے ہمارے رب ہم کو صبر دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلہ میں۔

Vår herre, skjenk oss utholdenhet, styrk våre føtter og bistå oss mot det vantro folk. (2:251)

Bønn ved tap

تلافی نقصان کی دعا

عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ۔

ترجمہ۔ امید ہے ہمارا رب العزت اس سے بہتر ہمیں دے گا اور ہم اپنے رب العزت کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔

I håp om at vår Herre, Den Opphøyde, skal skjenke oss noe bedre enn dette, for vi er de som retter vår oppmerksomhet mot vår Opphøyde Herre.

Bønn om tilgivelse og nåde

بخشش و رحم کی دعا

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خٰطِئِينَ۔

ترجمہ۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش ہم خطا پر تھے۔

Å vår Herre, tilgi oss våre synder, vi har feile

Bønn om tilgivelse

مغفرت چاہنے کی دعا

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔

ترجمہ۔ اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف ٹھکانہ ہے۔

Å vår Herre, vi søker Din tilgivelse og til Deg skal vi vende tilbake.

Bønn om oppnåelse av det gode

حصول خیر کی عاجزانہ دعا

رَبِّ اِنِّی لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَاقْبِرْ۔

ترجمہ۔ اے میرے رب اپنی بھلائی میں سے جو کچھ تو مجھ پر نازل کرے میں اُس کا محتاج ہوں۔

Min Herre, jeg har visselig behov for hva Du vil sende meg av godt.(20:25)

Bønn om oppnåelse av Guds barmhjertighet

دعائے تمنا رحمت باری تعالیٰ

لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔

ترجمہ۔ اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ فرمائے گا اور ہمیں بخش نہ دے گا تو یقیناً ہم ناکام ہونے والے ہوں گے۔

Om vår Herre ikke viser oss barmhjertighet og tilgir oss, så vil vi sannelig være blant de mislykkede. (7:150)

Bønn om suksess

طلب کامیابی کی دعا

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا۔

ترجمہ۔ اے ہمارے رب! دے ہمیں اپنی جناب سے رحمت اور مہیا کر ہمارے لئے ہمارے کام کی کامیابیاں۔

Vår Herre, skjenk oss Din barmhjertighet og skjenk oss rettledning (og rettfærdighet) i vår sak." (18:11)

Bønn om hjelp mot ulykke

مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی دعا

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۔

ترجمہ۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔

Det er ingen Gud unntagen Deg! Hellig er Du (og fri for enhver mangel). Jeg hører visselig til dem som har feilet. (21:88)

Bønn om å bli et gudfryktig menneske

خدا ترس انسان بننے کی دعا

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الدّٰثِرِيْنَ اِذَا اَحْسَنُوْا اِسْتَبْشِرُوْا وَاِذَا اَسَاؤْا اِسْتَغْفِرُوْا۔

ترجمہ۔ اے اللہ! مجھے اُن لوگوں میں سے بنا جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور جب برائی کریں تو بخشش چاہیں۔

Å Allah, gjør meg til en av de som føler glede når de handler godt og som søker tilgivelse når de handler galt.

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مصیبت اور بیماری سے نجات کی الہامی دعا۔

Den utlovede Messias^{as} sin bønn for beskyttelse mot vanskeligheter og sykdom åpenbart av Allah:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ -

ترجمہ - پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اللہ جو بہت عظیم ہے۔ اے اللہ رحمتیں بھیج آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کی آل پر۔

Hellig er Du, Å Allah, og all lovprisning tilkommer Deg (alene). Hellig er Du, Å Allah, den aller Største. Velsign, Å Allah, Muhammadsaw og Muhammad (saw) sitt folk.

Bønn etter Salat

نماز کے بعد کی دعائیں

نمبر 1 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمہ - اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے۔ اسی کی ہر حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

Nr.1: Ingen er verdig tilbedelse unntagen Allah. Han er alene, Han har ingen partner, og Han er Herre over alt. Ham (alene) tilkommer all lovprisning, og Han har makt over alt.

نمبر 2 اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

ترجمہ - اے میرے اللہ تو سلامتی والا ہے۔ تیری طرف سے ہی سلامتی ملتی ہے۔ اے جلال اور عزت والے خدا تو برکتوں کا مالک ہے۔

Nr.2: Å vår Herre! Du skjenker oss sikkerhet. Og Du er den som skjenker sann fred. Velsignet er Du; Å, majestetens og gavmildhetens Herre.

Bønn ved inngang av gravlund

قبرستان جانے کی دعا

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالْآثَرِ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ -

ترجمہ - اے اہل قبور آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بخش دے۔ آپ ہم سے پہلے (جانے والے) ہیں اور ہم پیچھے (آنے والے) ہیں اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی آپ کے ساتھ ملنے والے ہیں۔

Fred være med dere, å gravens beboere. Må Allah skjenke oss tilgivelse og dere også. Dere er de som forlot før oss og vi er de som vil følge etter dere, og om Allah ønsker det vil vi forenes med dere.

Bønn etter Adhan




اذان کے بعد کی دعا

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ - اَتِ مُحَمَّدَ بْنَ الْوَسِيَّةِ وَالْفَضِيلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ
وَ اَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمَعْيَادَ

ترجمہ: اے اس کامل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب۔ محمد ﷺ کو اپنا قرب اور بزرگی عطا کر اور آپ ﷺ کا درجہ بلند کر اور آپ ﷺ کو محمود عطا کر جس کا تو نے انہیں وعدہ دیا ہے۔ یقیناً تو اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

Å, Allah, Herre over det fullkomne kall og forsamlingsbønn, velsigne Muhammadsaw med Din nærhet og storhet, og skjenk ham den forhøyede status og gledelige budskap slik det ble lovet ham. Sannelig, Du bryter ikke Ditt løfte.

وضو کا طریق

| | |
|---|--|
|  | <p>نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ جب کوئی شخص وضو کرنے لگے تو بسم اللہ پڑھے اور ہاتھ دھوئے۔</p> <p>Wudhû (Renselse)</p> <p>Ordene Religjøs vask henviser til tvetting av forskjellige steder av kroppen før en kan holde bønn. Dette er et krav som må være oppfylt før en holder bønn, for ellers vil ikke bønnen bli betraktet som gyldning. Hadith (Tradisjonene) gir klare instruksjoner om at man skal vaske hendene sine tre ganger med vann.</p> |
|  | <p>منہ صاف کرنے کے لئے پانی سے تین بار کھلی کریں۔</p> <p>Og så Rense munnen ved hjelp av vann, også dette tre ganger.</p> |
|  | <p>اُس کے بعد تین بار ناک میں پانی ڈالیں اور اچھی طرح ناک صاف کریں۔</p> <p>Deretter renser man nesene ved at man heller vann inn i neeborene, også dette tre ganger.</p> |



تین بار منہ دھوئیں۔

Etter dette vaskes hele ansiktet tre ganger.



تین بار کہنیوں تک بازو دھوئیں۔ پہلے دایاں اور پھر بائیں بازو دھوئیں۔

Så vasker man underarmen helt opp til og med albuen, dette gjøres også tre ganger, og man begynner med høyre arm først.



ہاتھ گیلے کر کے پورے سر پر پھیریں یعنی مسح کریں ہاتھ پیشانی سے پیچھے کی طرف لے کر جائیں۔

Etter å ha hendene med vann igjen, må man stryke seg over hodet med begge hendene ved å stryke håndflatene nedover med tomlene utstrakte, slik at hele hodet dekkes ved denne bevegende beegelse.



پھر شہادت کی انگلی کانوں کے اندر کی طرف اور انگوٹھے کانوں کے باہر کی طرف پھیریں۔

Ved slutten av denne handlingen må ørene vaskes med fingertuppen til pekefingeren. Høyre pekefinger brukes for høyre øre, og tilsvarende venstre pekefinger for venstre øre. Fingertuppene må også berøre ørets ytre fordyppninger og så sakte mot ørehullene.



سر اور کانوں کے مسح کے بعد گردن کا مسح کریں یعنی گیلے ہاتھ گردن پر پیچھے سے آگے کی طرف پھیریں۔

Etter å ha vasket ørets ytre og indre, formes hendene slik at håndflatene peker utover, og så strykes baksiden av hendene fra nakkegruppen til forsiden av halsen.



آخر میں تین بار پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں۔ پہلے دایاں پاؤں پھر
بایاں۔

Helt til slutt vaskes føttene og ankene
tre ganger, helt opp til og med ankene.
Også her begynner man med høyre fot.
Dermed er renselsen ferdig.

وضو کی دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔

Det er viktig at man resiterer bønn etter
Wudhû:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔

ترجمہ: اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے
بنا۔

"Å, Allah, gjør meg til en av dem som søker tilgivelse, og
gjør meg til en av de rensede."

اقامت

Översettelse:

Allah er størst
Allah er størst
Jeg bevitner at ingen er verdig tilbedelse
unntagen Allah
Jeg bevitner at Muhammad er Allahs
Sendebud
Kom til bønn
Kom til suksess
Bønnen er klar
Bønnen er klar
Allah er størst
Allah er størst
Ingen er verdig tilbedelse unntagen
Allah

اقامت نماز امام جب مصطفیٰ پر کھڑا ہو جائے تو اقامت کہی جاتی ہے جس کے
الفاظ یہ ہیں:-

اللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ سب سے بڑا ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ سب سے بڑا ہے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف آؤ۔

حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ کامیابی کی طرف آؤ۔

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نماز کھڑی ہو گئی ہے۔

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نماز کھڑی ہو گئی ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ سب سے بڑا ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ سب سے بڑا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے الٰہ نہیں۔

نماز

Jeg har sannelig vendt
min oppmerksomhet i all
oppriktighet til det vesenet
som har skapt Himlene og
Jorden. Og jeg er ikke en
av avgudsdyrkerne.

میں نے کیا

اپنا رخ

اس کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں کو

اور زمین کو

سیدھا ہو کر

اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔

وَجَّهْتُ

وَجْهِيَ

لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ

حَنِيفًا

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

نیت نماز

Hellig er Du; Å, Allah, og all lovprisning tilkommer Deg (alene); velsignet er Ditt navn og opphøyd er Din status. Og ingen er verdig tilbedelse unntagen Deg alene.

پاک ہے اے اللہ تعالیٰ تو۔
اور اپنی تعریف کے ساتھ
اور برکت والا ہے تیرا نام
اور بڑی ہے تیری شان
اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

شَاءَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَبِحَمْدِكَ
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالَى جَدُّكَ
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ط

Jeg søker tilflukt hos Allah mot Satan, den forbannede.

میں اللہ کی پناہ چاہتا یا چاہتی ہوں۔
دھتکارے ہوئے شیطان مردود سے۔

تَعَوُّذُ
أَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط

I Allahs navn, den mest Nåderike, den evig Barmhjertige.

شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ
جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔

تَسْمِيَةُ
بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

All lovprisning tilkommer (alene) Allah, verdenenes Herre, den mest Nåderike, den evig barmhjertige, Hersker over Dommedagen, Deg alene tilber vi, og hos Deg (alene) søker vi hjelp.

تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے
جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا
نہایت مہربان (اس کا دوسرا مطلب ہے)
بن مانگے دینے والا
بار بار رحم کرنے والا یا سچی محنت کو ضائع نہ کرنے والا
مالک ہے
جزا سزا کے دن کا
صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں
اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں
دکھا ہمیں
سیدھی راہ
راستہ ان لوگوں کا
جن پر تیرا فضل ہوا
نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا
اور نہ گمراہوں کے راستہ پر

سورة
الفاحة
الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ
مَالِكِ
يَوْمِ الدِّينِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ

| | | |
|--|---|--|
| <p>I Allahs navn, den mest Nåderike, den evig Barmhjertige. Si: Han er Allah, den eneste. Allah, den uavhengige. Han avler ikke, Heller ikke er Han født, Og ingen er Hans like.</p> | <p>شروع کرتا یا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے تو کہہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں سب اُس کے محتاج ہیں وہ کسی کا باپ نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اُس کے برابر کا ہے</p> | <p>سورة الاخلاص بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ</p> |
| <p>Hellig er min Herre, den aller største.</p> | <p>پاک ہے میرا پروردگار بڑی شان والا ہے۔</p> | <p>تسبیح سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ</p> |
| <p>Allah hører på den som lovpriser Ham. Vår Herre, all lovprisning tilkommer Deg (alene), lovprisninger som er rundhåndet, rene og velsignede.</p> | <p>یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دُعا سُنتا ہے جو اُس کی تعریف کرتا ہے اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے لئے ہے سب تعریف تیرے لئے ہیں جو نہایت زیادہ پاک جس میں برکت ہے</p> | <p>تسبیح سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا قَبِيهٖ</p> |
| <p>Hellig er min Herre, den opphøyde.</p> | <p>پاک ہے میرا رب جو بڑی شان والا ہے</p> | <p>تسبیح سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰی</p> |
| <p>Herre tilgi meg, og vis meg nåde og veiled meg, og gi meg sikkerhet og gjør godt mine feil, og forsyn meg og opphøy min status.</p> | <p>اے اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے اور رحم کر مجھ پر اور مجھے ہدایت دے اور مجھے صحت دے اور میری اصلاح کر اور مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عزت عطا کر یا میرا مرتبہ بلند کر</p> | <p>دوسجدوں کے درمیان کی دعا اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَازْحَمِي وَاهْدِي وَاعْفِي وَاجْبُرِي وَازْرُقِي وَازْقِنِي</p> |
| <p>Alle hilsninger tilhører Allah og alle bønner og alt som er rent.</p> | <p>تمام زبانی ورد اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور بدنی ریاضتیں یا عبادتیں اور مالی قربانیاں بھی اللہ ہی کے لئے ہیں</p> | <p>تسبیح اَللّٰحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوٰتُ وَ الطَّيِّبٰتُ</p> |

Fred være med deg; Å, Profet, og Allahs nåde og Hans velsignelser; og fred være med oss og alle Allahs rettvise tjenere.

Jeg bevitner at ingen er verdig tilbedelse unntagen Allah, og jeg bevitner at Muhammad er Allahs tjener og Sendebud.

Velsign, Å, Allah Muhammad^{saw} og Muhammads^{saw} sit folk, slik Du velsignet Abraham og Abrahams folk. Du er sannelig den Prisverdige, den Majestetiske.

Skjenk lykke, Å, Allah, til Muhammad^{saw} og til Muhammad^{saw} sitt folk, slik Du ga lykke til Abraham og til Abrahams folk. Du er sannelig den Prisverdige, den Majestetiske.

Vår Herre, gi oss gode ting i denne verden, og gi oss gode ting i den kommende (også), og frels oss fra Ildens straff. (2:202)

سلامتی ہو آپ پر
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت
اور اس کی برکتیں

سلامتی ہو ہم پر
اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر
میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
اور میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ محمد
اس کے نیک بندے اور اس کے رسول ہیں

السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ

السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اے اللہ تعالیٰ فضل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں پر
جس طرح تو نے فضل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں پر
ضرور تو ہی بڑی حمد والا اور بڑی شان والا ہے

اے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں پر
جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر
اور ابراہیم علیہ السلام کے فرمانبرداروں پر
ضرور تو ہی بڑی حمد والا بڑی شان والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

درو
شریف

دعائیں

اے ہمارے رب
عطا کر ہمیں

دنیا میں
ہر قسم کی بھلائی
اور آخرت میں بھی
ہر قسم کی بھلائی
اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا

رَبَّنَا
آتِنَا

فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً

وَفِي الآخِرَةِ
حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Min Herre, gjør meg i stand til å opprettholde bønnen (regelmessig) og (også) mine barn.

Vår Herre, (skjenk oss Din nåde) og godta min bønn.

Vår Herre, tilgi meg og mine foreldre og de troende på den dag da Dommen vil finne sted.

(14:41 – 42)

اے میرے رب بنا مجھ کو
قائم کرنے والا نماز کا
اور میری اولاد کو بھی

اے میرے رب اور قبول فرما میری دعا
اے میرے رب بخش دے مجھ کو
اور میرے ماں باپ کو
اور سب مومنوں کو
جس دن حساب ہونے لگے

رَبِّ اجْعَلْنِي
مُقِيمَ الصَّلَاةِ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءُ
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي
وَلِوَالِدَيَّ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ
يَوْمَ يَقْتَوْمُ الْحِسَابُ

دعائے قنوت

Å, Allah, vi søker Din hjelp og Din beskyttelse, og vi tror på Deg

og setter vår lit til Deg alene, og vi lovpriser Deg på den best (mulige) måten. Og vi takker Deg,

og vi er ikke utakknemlig overfor Deg. Og vi forkaster og gir opp den som er ulydig mot Deg.

Å, Allah, Deg alene tjener vi og Deg alene tilber vi, og underkaster oss og søker tilflukt hos Deg alene,

og vi er raske (til å vende oss mot Deg) og håper på Din nåde og frykter Din straff. Din straff ødelegger visse de vantro.

اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں
اور ہم تیری بخشش چاہتے ہیں
اور ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں
اور ہم بھروسہ رکھتے ہیں تجھ پر
اور ہم خوبیاں بیان کرتے ہیں تیری
اور شکر کرتے ہیں تیرا
اور نہیں ناشکری کرتے تیری
اور ہم قطع تعلق کرتے ہیں
اور چھوڑتے ہیں
اُس کو جو نافرمانی کرتے ہیں تیری
اے اللہ تعالیٰ

ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور تیرے لئے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں
اور ہم سجدہ کرتے ہیں
اور تیری طرف ہم دوڑتے ہیں
اور ہم کھڑے ہوتے ہیں
اور ہم امیدوار ہیں
تیری رحمت کے
اور ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے
یقیناً تیرا عذاب
کفار کو پہنچنے والا ہے

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ
وَنَسْتَعْفِرُكَ
وَنُؤْمِنُ بِكَ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
وَنُشْخِرُ عَلَيْكَ الْخَيْرَ
وَنَشْكُرُكَ
وَلَا نَكْفُرُكَ
وَنَلْجُكَ
وَنَسْتُرُكَ
مَنْ يَفْجُرُكَ
اللَّهُمَّ
إِيَّاكَ تَعْبُدُ
وَأَلَا نَصَلِي
وَنَسْجُدُ
وَإِلَيْكَ نَسْعِي
وَنَحْفِدُ
وَنَرْجُوا
رَحْمَتَكَ
وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ
إِنَّ عَذَابَكَ
بِالْكَفَارِ مُلْحِقٌ

اللَّهُ أَكْبَرُ (بار 34)

اللہ سب سے بڑا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ (بار 33)

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ (بار 33)

اللہ تعالیٰ پاک ہے۔

نماز کے بعد کی تسبیحات

دعائے جنازہ

1. Imamen påbegynner bønningen ved å si Allaho Akbar, følgerne sier det samme og resiterer deretter Sana og Sura al-Fatiha med lav stemme.
2. Når imamen sier Allaho Akbar andre gang, sier følgerne det samme og resiterer Durood med lav stemme.
3. Etter det sier imamen Allaho Akbar for tredje gang, og alle følgerne resiterer de spesielle bønnene for de avdøde slik de er nevnt nedenfor:

Å, Allah, tilgi våre levende og våre døde, og de tilstedeværende

og de fraværende, og våre unge og våre eldre, og våre menn og våre kvinner.

Å, Allah, de av oss som Du skjenger liv, la dem leve ved å holde fast ved islam,

Og de av oss som Du forårsaker død, la dem død ved å holde faste ved troen.

Å, Allah, berøv oss ikke gavnen forbundet med den døde og utsett ikke oss for prøvelse etter ham.

4. Etter det sier Imamen Allaho Akbar for fjerde gang og vender deretter ansiktet sitt mot høyre og mot venstre for å markere slutten på bønningen, følgerne gjør det samme.

نماز جنازہ

- 1- جب امام پہلی بار "اللَّهُ أَكْبَرُ" کہے تو مقتدی بھی اس کے ساتھ تکبیر کہہ کر ہاتھ سینہ پر باندھ لیں پھر ثناء اور سورۃ فاتحہ پڑھیں۔
- 2- جب امام دوسری بار "اللَّهُ أَكْبَرُ" کہے تو تکبیر کہہ کر درود شریف پڑھیں۔
- 3- جب امام تیسری بار "اللَّهُ أَكْبَرُ" کہے تو تکبیر کہہ کر یہ دعا پڑھیں۔

دعائے جنازہ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا

اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مَرُودوں کو اور ہمارے حاضر کو

وَعَانِينَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْتُنَا

اور ہمارے غائب کو اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مَرُودوں کو اور ہماری عورتوں کو

اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامِ

اے اللہ ہم میں سے جن کو تو زندگی دے انہیں اسلام پر زندہ رکھنیے

وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيَّ الْإِيمَانِ

اور جن کو تو وفات دے ہم میں سے انہیں ایمان کی حالت میں وفات دینا

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ

اے اللہ ہمیں اس (مردوم کے نیک اعمال) کے اجر سے محروم نہ کرنا اور نہ اس کے بعد کسی اتلا میں ڈالنا

4- جب امام چوتھی بار "اللَّهُ أَكْبَرُ" کہے تو تکبیر کہہ کر امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ

سلام پھیر لیں۔

عید کی تکبیرات

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ

سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے سب تعریفیں ہیں۔

Allah er den største, Allah er den største. Ingen er verdig tilbedelse unntagen Allah (alene), og Allah er den største. Allah er den største og all lovprisning tilkommer Allah alene.

Gudsattributter

اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام

| | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| نہایت رحم کرنے والا Den evig barmhjertige | 2 الرَّحِيمِ ar-rahim | بہت مہربان Den mest nåderike | 1 الرَّحْمَنُ ar-rahman |
| پاک ذات Den hellige | 4 الْقُدُّوسُ al-quddus | بادشاہ Herskeren | 3 الْمَلِكُ al-malik |
| امن دینے والا Troens forsvarer | 6 الْمُؤْمِنُ al-mu'min | سلامتی والا Freden | 5 السَّلَامُ as-salam |
| غالب Den mektige | 8 الْعَزِيزُ al-'aziz | نگران Beskytteren | 7 الْمُهَيِّمِينَ al-muhaymin |
| بڑائی والا Den majestetiske | 10 الْمُتَكَبِّرُ al-mutakabbir | زبردست Tvingeren | 9 الْجَبَّارُ al-jabbar |
| پیدا کرنے والا Den frembringende | 12 الْبَارِيُ al-bari | بنانے والا Den skapende | 11 الْخَالِقُ al-khaliq |
| بخشنے والا Den tilgivende | 14 الْغَفَّارُ al-ghaffar | صورت بنانے والا Den formgivende | 13 الْمُصَوِّرُ al-musawwir |
| بہت دینے والا Den givende | 16 الْوَهَّابُ al-wahhab | غالب Den beseirende | 15 الْقَهَّارُ al-qahhar |
| کھولنے والا Åpneren | 18 الْفَاتِحُ al-fattah | روزی دینے والا Den forsørgende | 17 الرَّزَّاقُ al-razzaq |
| تنگ کرنے والا Den begrensende | 20 الْقَابِضُ al-qabid | جاننے والا Den allvitende | 19 الْعَلِيمُ al-'alim |
| پست کرنے والا Den ydmykende | 22 الْخَافِضُ al-khafid | کشاہدہ کرنے والا Den utbredende | 21 الْبَاسِطُ al-basit |
| عزت دینے والا Den ærende | 24 الْمُعِزُّ al-mu'izz | بلند کرنے والا Den opphøyende | 23 الرَّافِعُ ar-rafi' |
| سننے والا Den althørende | 26 السَّمِيعُ al-sami' | ذلیل کرنے والا Den vanærende | 25 الْمُذِلُّ al-muzill |
| فیصلہ کرنے والا Dommeren | 28 الْحَكَمُ al-hakam | دیکھنے والا Den altseende | 27 الْبَصِيرُ al-basir |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| بھید جاننے والا Den nyanserike | 30 اللَّطِيف al-latif | انصاف کرنے والا Den rettferdige | 29 الْعَدْل al-'adl |
| تحمل والا Den overbærende | 32 الْحَلِيم al-halim | خبر رکھنے والا Den oppmerksomme | 31 الْخَبِير al-khabir |
| بخشنے والا Den alttilgivende | 34 الْغَفُور al-ghafur | عظمت والا Den store | 33 الْعَظِيم al-'azim |
| بلندی والا Den høyeste | 36 الْعَلِي al-'ali | قدر دان Den anerkjennende | 35 الشَّكُور ash-shakur |
| حفاظت کرنے والا Beskytteren | 38 الْحَفِيز al-hafiz | بڑائی والا Den største | 37 الْكَبِير al-kabir |
| حساب لینے والا Oppgjøreren | 40 الْحَسِيب al-hasib | روزی دینے والا Opprettholderen | 39 الْمُقِيت al-muqit |
| عزت والا Den storsinnede | 42 الْكَرِيم al-karim | بزرگی والا Den edle | 41 الْجَلِيل al-jalil |
| قبول کرنے والا Den lydhøre | 44 الْمُجِيب al-mujib | نگہبان Den årvåkne | 43 الرَّقِيب al-raqib |
| حکمت والا Den vise | 46 الْحَكِيم al-hakim | کشائش والا Den altomfavnende | 45 الْوَاسِع al-wasi' |
| بڑی شان والا Den herligste | 48 الْمَجِيد al-majid | محبت کرنے والا Den kjærlige | 47 الْوَدُود al-wadud |
| حاضر Vitnet | 50 الشَّهِيد ash-shahid | اُٹھانے والا Gjenoppvekkeren | 49 الْبَاعِث al ba'ith |
| کام سنبھالنے والا Forvalteren | 52 الْوَكِيل al-wakil | سچا مالک Sannheten | 51 الْحَق al-haqq |
| قوت والا Den faste | 54 الْمَتِين al-matin | زور آور Den sterkeste | 53 الْقَوِي al-qawi |
| خوبیوں والا Den prisverdige | 56 الْحَمِيد al-hamid | حمایت کرنے والا Den beskyttende venn | 55 الْوَالِي al-wali |
| پہلی بار پیدا کرنے والا Skaperen | 58 الْمُبْدِي al-mubdi | گنتی والا Beregneren | 57 الْمُحْصِي al-muhsi |
| زندہ کرنے والا Livgiveren | 60 الْمُحْيِي al-muhyi | پیدائش کو بار بار لوٹانے والا Gjenoppretteren | 59 الْمُعِيد al-mu'id |

| | | | |
|--|---|--|---|
| زندہ اور زندہ کرنے والا Den levende | 62 الْحَيِّ al-hayy | مارنے والا Skaperen av døden | 61 الْمُمِيتِ al-mumit |
| پالنے والا Finneren | 64 الْوَاكِدِ al-wajid | سب کا تھامنے والا Den selvoppretholdende | 63 الْقَيُّومِ al-qayyum |
| اکیلا Den enestående | 66 الْوَاكِدِ al-wahid | عزت والا Den edle | 65 الْمَاجِدِ al-majid |
| قدرت والا Den kyndige | 68 الْقَادِرِ al-qadir | بے احتیاج Den evige | 67 الصَّمَدِ as-samad |
| آگے آنے والا Fremskynderen | 70 الْمُقَدِّمِ al-muqaddim | قدرت والا Den kraftfulle | 69 الْمُقْتَدِرِ al-muqtadir |
| سب سے پہلے Den første | 72 الْأَوَّلِ al-awwal | پیچھے کرنے والا Forsinkeren | 71 الْمُؤَخَّرِ al-mu'akhkhir |
| ظاہر Den åpenbare | 74 الظَّاهِرِ az-zahir | سب سے پیچھے Den siste | 73 الْآخِرِ al-akhir |
| مالک Herskeren | 76 الْوَالِيِ al-wali | چھپا ہوا Den skjulte | 75 الْبَاطِنِ al-batin |
| احسان کرنے والا Velgjøreren | 78 الْبَرِّ al-barr | بلند صفتوں والا Den mest opphøyede | 77 الْمُتَعَالِيِ al-muta'ali |
| بدلہ لینے والا Hevneren | 80 الْمُنْتَقِمِ al-muntaqim | رجوع کرنے والا Den som ettergir | 79 التَّوَابِ at-tawwab |
| شفقت کرنے والا Den tålmodige | 82 الرَّؤُوفِ ar-ra'uf | معاف کرنے والا Tilgiveren | 81 الْعَفُوِ al-'afuw |
| جلال اور اکرام والا Den herlige og velgjørende | 84 ذُالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ dhul-jalal-wal- ikram | بادشاہت کا مالک Den som har herredømmet | 83 مَلِكِ الْمُلْكِ malik-ul-mulk |
| انصاف کرنے والا Den rettferdige | 86 الْمُقْسِطِ al-muqsit | روکنے والا Hindreren | 85 الْمَانِعِ al-mani' |
| بے پرواہ Den selvtilstrekkelige | 88 الْغَنِيِّ al-ghani | اکٹھا کرنے والا Samleren | 87 الْجَامِعِ al-jame' |
| واحد Den ene | 90 الْأَحَدِ al-ahad | بے پرواہ کرنے والا Berikeren | 89 الْمُغْنِيِ al-mughni |

| | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|
| نفع پہنچانے والا Den som skaper det gode | 92 الْناْفِع an-nafi' | نقصان پہنچانے والا Skaderen | 91 الْصَّار ad-darr |
| ہدایت دینے والا Veiviseren | 94 الْهَادِي al-hadi | روشن کرنے والا Lyset | 93 النُّور an-nur |
| باقی رہنے والا Den evige | 96 الْبَاقِي al-baqi | پیدائش کا آغاز کرنے والا Den uforlignelige | 95 الْبَدِيْع al-badi' |
| نیک راہ پر چلنے والا Den som leder på den rette vei | 98 الرَّشِيْد ar-rashid | سب کا وارث Den alt tilfaller | 97 الْوَارِث al-warith |
| | | صبر کرنے والا Den tålmodige | 99 الصَّبُوْر as-sabur |



بعض ضروری جملے

- ☆ بِسْمِ اللّٰهِ : اللہ کے نام کے ساتھ۔
بِسْمِ اللّٰهِ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بولا جاتا ہے۔
- ☆ اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ : تم پر سلامتی ہو۔ جب کسی سے ملیں، کسی کے گھر میں داخل ہوں یا کسی مجلس میں جائیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اس کے جواب میں سننے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔
- ☆ جَزَاكَ اللّٰهُ: یعنی اللہ تعالیٰ تجھے اچھا اور نیک بدلہ دے۔
جب کوئی آپ کے کام آئے یا مدد کرے تو کہتے ہیں۔ جب کسی کا شکر یہ ادا کرنا ہو تو بھی جزاک اللہ کہتے ہیں۔
- ☆ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ: اس کے معنی ہیں کہ تمام تعریفوں کا مستحق صرف اللہ ہی ہے۔
سورۃ فاتحہ اسی جملے سے شروع ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی نعمت ملے یا کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہو تو الحمد للہ ضرور کہتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے بعد اور چھینک آنے کے بعد بھی کہنا چاہئے۔
- ☆ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اس کے معنی ”اُن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ہو۔“
یہ فقرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ جب بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھیں، سنیں یا لکھیں تو آپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور استعمال کریں۔
- ☆ اِنْشَاءَ اللّٰهِ: اس کے معنی ہیں ”اگر خدا تعالیٰ نے چاہا۔“ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ ظاہر کریں یا کسی سے کوئی وعدہ کریں تو ساتھ انشاء اللہ ضرور کہنا چاہیے۔
- ☆ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اس کے معنی ہیں ”اُن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو۔“
یہ فقرہ خدا کے نبیوں اور ماموروں کے ناموں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔
- ☆ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ: اس کا مطلب ہے ”اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو۔“
یہ کلمات عموماً صحابہ رسول کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔
- ☆ يَرْحَمُكُمْ اللّٰهُ: اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔
جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو سننے والے کو چاہئے کہ وہ يَرْحَمُكُمْ اللّٰهُ کہے۔
- ☆ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ: اس کا مطلب ہے ”میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتی ہوں۔“ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ کہیں۔
- ☆ مَا شَاءَ اللّٰهُ: اس کا مطلب ہے ”جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔“
جب کسی اچھی چیز کی تعریف کرنی ہو تو ماشاء اللہ کہتے ہیں۔

☆ سُبْحَانَ اللَّهِ: اس کا مطلب ہے ”اے اللہ تو پاک ہے“۔

جب کسی میں کوئی خوبی دیکھو تو سُبْحَانَ اللَّهِ کہو۔

☆ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ: ہم اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور مرنے کے بعد اُسی کی طرف لوٹنا ہے (یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور یقیناً ہم

اسی کی طرف لوٹے والے ہیں)۔ یہ فقرہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اور کسی کی وفات کی خبر سُننے پر یا مصیبت اور بُری خبر سُننے پر بولا جاتا ہے۔

☆ اَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِنَصْرِهِ الْعَزِيزِ: اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت عزیز سے تائید و نصرت فرمائے۔

یہ دعائیہ کلمات بالعموم (عام طور پر) زندہ بزرگان اور اولیاء دین کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں اور خصوصی طور پر جماعت کے خلیفہ وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

☆ ”ہمارے مذہب کا خلاصہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے“۔ (ازالہ اوہام)

☆ ”ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے“۔ (کشتی نوح)

☆ ”سچا خدا وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے“۔ (کشتی نوح)

☆ ”اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے“۔ (تزیق القلوب)

☆ ”روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن“۔ (کشتی نوح)

☆ ”قرآن شریف کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے“۔ (ازالہ اوہام)

☆ ”ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا۔ اور اب بھی بولتا ہے جیسا کہ پہلے بولتا تھا۔ (الوصیت)

☆ ”خدا کے لئے سب پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم ہو“۔ (گورنمنٹ انگریزی اور جہاد)

☆ اپنے آپ کو عمدہ اور نیک بنانے کی کوشش میں لگے رہو۔ (ملفوظات جلد 6)

☆ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں۔ (الوصیت)

حدیث نبوی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دو کلمات ایسے ہیں جو زبان کے لئے بولنے آسان ہیں مگر قول میں بہت بھاری ہیں۔ اور خدائے

رحمان کو بہت پسند ہیں۔ یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

قصیدہ حضرت مسیح موعود

1 يَا عَيْنَ فَيْضِ اللَّهِ وَالْعِرْفَانَ يَسْعَى إِلَيْكَ الْخَلْقُ كَالظَّمَانِ

اے اللہ کے فیض و عرفان کے چشمے! خلقت تیری طرف پیاسے کی طرح دوڑ رہی ہے۔

2 يَا بَحْرَ فَضْلِ الْمُنْعَمِ الْمَنَّانِ تَهْوِي إِلَيْكَ الزُّمَرُ بِالْكِيْزَانِ

اے انعام و احسان کرنے والے خدا کے فضل کے سمندر! لوگوں کے گروہ کوزے لئے ہوتے تیری طرف لپکے آ رہے ہیں۔

3 يَا شَمْسَ مُلْكِ الْحُسْنِ وَالْإِحْسَانِ نَوَّرْتَ وَجْهَ الْبَرِّ وَالْعُمَرَانَ

اے حسن و احسان کے ملک کے آفتاب! تو نے بیابانوں اور آبادیوں کے چہرے کو متور کر دیا ہے۔

4 قَوْمٌ رَأَوْكَ وَ أُمَّةٌ قَدْ أُخْبِرَتْ مِنْ ذَلِكَ الْبَدْرِ الَّذِي أَصْبَانِي

ایک قوم نے تو تجھے دیکھا ہے اور ایک امت نے خبر سنی ہے اس بدر کی جس نے مجھے (اپنا) عاشق بنا دیا ہے۔

5 يَكُونُ مِنْ ذِكْرِ الْجَمَالِ صَبَابَةً وَ تَأَلُّمًا مِّنْ لُّوْعَةِ الْهَجْرَانِ

وہ تیرے حسن کی یاد میں بوجہ عشق کے (بھی) روتے ہیں اور جدائی کی جلن کے دکھ اٹھانے سے بھی۔

6 وَأَرَى الْقُلُوبَ لَدَى الْحَنَاجِرِ كُرْبَةً وَأَرَى الْغُرُوبَ تُسِيلُهَا الْعَيْنَانِ

اور میں دیکھتا ہوں کہ دل بےقراری سے گلے تک آگئے ہیں اور میں دیکھتا ہوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔

7 يَا مَنْ غَدَا فِي نُورِهِ وَضِيَائِهِ كَالنَّيِّرَيْنِ وَنُورَ الْمَلَوَانِ

اے وہ ہستی جو اپنے نور اور روشنی میں مہر و ماہ کی طرح ہو گئی ہے اور رات اور دن منور ہو گئے ہیں۔

8 يَا بَدْرَنَا يَا آيَةَ لِرَحْمَنِ أَهْدَى الْهُدَاةِ وَأَشْجَعَ الشُّجْعَانَ

اے ہمارے کامل چاند! سب راہنماؤں کے راہنما اور سب بہادروں سے بہادر۔

9 إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ الْمُتَهَلِّلِ شَأْنَا يَفُوقُ شَمَائِلَ الْإِنْسَانِ

بے شک میں تیرے درخشاں چہرے میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسی شان جو انسانی خصائل پر فوقیت رکھتی ہے۔

10 وَقَدْ اقْتَفَاكَ أَوْلُو النَّهْيِ وَبِصَدْقِهِمْ وَدَعَاؤَاتِ تَذَكَّرَ مَعَهْدِ الْآوْطَانَ

بے شک دانشمندوں نے تیری پیروی کی ہے اور اپنے صدق کی وجہ سے انہوں نے وطنوں کی یاد بھلا دی ہے۔

11 قَدْ اَثْرُوكَ وَقَارَ قُورَا اَحْبَابَهُمْ وَتَبَاعَدُوَا مِنْ حَلَقَةِ الْاِخْوَانِ

بے شک انہوں نے تجھے مقدم کر لیا اور اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا اور اپنے بھائیوں کے دائرہ سے دور ہو گئے۔

12 قَدْ وَدَّعُوا اَهْوَاءَهُمْ وَنُفُوسَهُمْ وَتَبَرَّءُوا مِنْ كُلِّ نَشَبٍ فَاِنْ

انہوں نے اپنی خواہشوں اور نفسوں کو یکسر چھوڑ دیا اور ہر فانی مال و منال سے بیزار ہو گئے۔

13 ظَهَرَتْ عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٌ رَسُوْلِهِمْ فَتَمَزَّقَ الْاَهْوَاءُ كَالْاَوْثَانِ

ان پر اپنے رسول کے روشن دلائل ظاہر ہوئے تو ان کی نفسانی خواہشیں بھوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔

14 فِيْ وَقْتٍ تَرُوْبِقِ الْلَيَالِي نُوْرُوَا وَاللّٰهُ نَجَّاهُمْ مِنَ الطُّوْفَانِ

وہ راتوں کی تاریکی کے وقت متور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان سے نجات دے دی۔

15 قَدْ هَاضَهُمْ ظُلْمُ الْاِنْسَانِ وَضَمِيْمُهُمْ فَتَشَبَّهُوا بِعِنَايَةِ الْمَنَّانِ

بے شک لوگوں کے ظلم و ستم نے انہیں پور پور کر دیا پھر بھی خدائے محسن کی عنایت سے وہ ثابت قدم رہے۔

16 نَهَبَ الْاَلْنَامُ نَشُوْبَهُمْ وَعِقَارَهُمْ فَتَهَلَّلُوا بِجَوَاهِرِ الْفَرْقَانِ

رذیل لوگوں نے ان کے مال اور جائیداد کو لوٹ لیا مگر اس کے عوض قرآن کے موتی پا کر ان کے چہرے چمک اٹھے۔

17 كَسَحُوَا بِيُوْتِ نُفُوسِهِمْ وَتَبَادَرُوَا لِتَمْتَعَ الْاِيْقَانِ وَالْاِيْمَانِ

انہوں نے اپنے نفس کے گھروں کو خوب صاف کیا اور یقین و ایمان کی دولت سے فائدہ اٹھانے کے لئے آگے بڑھے۔

18 قَامُوَا بِاِقْدَامِ الرَّسُوْلِ بِغَزْوِهِمْ كَالْعَاشِقِ الْمَشْغُوْفِ فِي الْمَيْدَانِ

وہ رسول کی پیش قدمی پر اپنی جنگ میں ایک عاشق شیدا کی طرح میدان میں ڈٹ گئے۔

19 قَدَمُ الرَّجَالِ لِصِدْقِهِمْ فِيْ حُبِّهِمْ تَحْتَ السُّيُوْفِ اُرِيْقَ كَالْقُرْبَانِ

سوان جواں مردوں کا خون اپنی محبت میں ثابت قدمی کی وجہ سے تلواروں کے نیچے قربانیوں کی طرح بہایا گیا۔

20 جَاءُ وَاِنْ مِنْهُوْبِيْنَ كَالْعُرْيَانِ فَسَتَرْتَهُمْ بِمَلَاْحِفِ الْاِيْمَانِ

وہ تیرے پاس لڑے پڑے ہونے کی مانند آئے تو تو نے انہیں ایمان کی چادریں اوڑھادیں۔

دس شرائط بیعت

اول:- بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اُس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مُجتنب رہے گا۔

دوم:- یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہو گا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔

سوم:- یہ کہ بلاناغہ پنچ وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا۔ اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا۔ اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ و ربنائے گا۔

چہارم:- یہ کہ عام خَلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا۔ نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح سے۔

پنجم:- یہ کہ ہر حال رنج اور راحت اور عُسر اور یُسّر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور بہر حالت راضی بقضاء ہو گا اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لئے اس کی راہ میں تیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔

ششم:- یہ کہ اتباعِ رسم اور متابعتِ ہو او ہو س سے باز آجائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا اور قَالَ اللّٰہ اور قَالَ الرَّسُوْل کو اپنے ہر ایک راہ میں دَسْتُوْر العمل قرار دے گا۔

ہفتم:- یہ کہ تکبر اور نَخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔

ہشتم:- یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔

نہم:- یہ کہ عام خَلق اللہ کی ہمدردی میں محض اللہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔

دہم:- یہ کہ اس عاجز سے عقدِ اخوت محض اللہ باقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا اور اس عقدِ اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہو گا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔

خلافت جوہلی کی خصوصی دعاؤں کی تحریک

(فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز خطبہ جمعہ 27 مئی 2005)

سورۃ الفاتحہ (سات بار روزانہ) مکمل درود شریف کم از کم روزانہ 33 مرتبہ پڑھیں

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ - (روزانہ 33 بار)

اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پاک ہے بڑی عظمت والا ہے۔ اے اللہ محمد (ﷺ) پر اور آپ کی آل پر بڑی رحمتیں اور برکات نازل فرما۔

Hellig er Allah og all lovprisning tilkommer Deg *alene*; Hellig er Allah den aller største. Velsign å, Allah, Muhammad^{sa} og Muhammads folk.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ - (روزانہ 33 بار)

میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔

Jeg søker Allahs tilgivelse for alle mine synder og vender meg til Ham.

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّثْ أَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلَى الْكُفْرِينَ - (روزانہ 11 بار)

اے اللہ! ہم کو صبر دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلہ میں۔

Vår Herre, la utholdenhet strømme nedover oss, og styrk våre føtter, og gi oss hjelp mot det vantro folk.

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ - (روزانہ 33 بار)

اے ہمارے رب! تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت (کے سامان) عطا کر۔ یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔

Vår Herre, la ikke våre hjerter forderves etter at Du har rettledet oss, og skjenk oss barmhjertighet fra Deg, for Du er alene den som skjenker alle ting.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ - (روزانہ 11 بار)

اے اللہ! ہم کرتے ہیں تجھے مقابلہ میں ان کافروں کے اور پناہ مانگتے ہیں تیری اُن کے تمام شر اور مضراثرات سے۔

Å, Allah, vi tar Deg som skjold mot dem, og vi søker tilflukt hos deg fra deres ondskap.

☆ ہر ماہ کی آخری جمعرات کو نفلی روزہ

☆ روزانہ دونوں ادا کئے جائیں

☆☆☆ شعبہ تربیت جماعت احمدیہ ناروے ☆☆☆

Etiketter for bønn

نماز کے آداب



1. Det er viktig å utføre wudhu før man begynner å be. Bønnen er ikke gyldig uten wudhu

2.

3. Det er viktig for bønnen at klærne, stedet og

kroppen er rene.

4. Alle fem bønnene skal bes til riktig tid. Allah gledes av at mennesker ber bønnen ved riktig tidspunkt.
5. Man burde ha gått til toalettet og gjort ferdig sine naturlige plikter før man påbegynner bønnen, slik at man kan opprettholde fokus under bønnen.
6. Det er viktig å rette seg mot qiblah før man begynner å be.
7. Når man står klar for bønn, skal man rette hele sin oppmerksomhet mot Allah gjennom hele bønnen og tenke seg at man står for Hans åsyn.
8. Resiter bønneordene sakte og med innlevelse. Fokuset må være på bønneordene. Man bør streve for at tankene ikke vandrer andre steder.
9. Det er forbudt å se seg rundt, peke, høre andre prate, hoste unødvendig og annet uaktsomhet mens man ber.
10. Øynene skal være åpne under bønn, og blikket skal rettes nedover.
11. Man skal ikke støtte seg mot veggen under bønn, ei heller lene seg på en fot.
12. Bønn burde alltid be med iver og interesse. Man skal ikke be bønn i en tilstand av latskap og trøtthet.
13. Det oppfordres til å be til Gud på sitt eget språk under bønnen.
14. Det er forbudt å bråke og snakke høyt rundt en som ber. Likeså er det forbudt å passere foran en som ber.

1. نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
2. نماز کے لئے وضو کے بعد جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔
3. ہر نماز کو مقررہ وقت پر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو وقت پر نماز ادا کرنا پسند ہے۔
4. نماز سے پہلے حاجات ضروری سے فارغ ہو لینا چاہئے تاکہ توجہ سے نماز ادا کی جاسکے۔
5. نماز ادا کرنے کے لئے قبلہ کی طرف منہ (رُخ) کرنا ضروری ہے۔
6. جب نماز کے لئے کھڑی ہوں تو اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنی چاہیے اور یوں سمجھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑی ہونے لگی ہوں۔
7. نماز کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھیں، توجہ نماز کے الفاظ کی طرف رہے اور کوشش کریں کہ ادھر ادھر کے خیالات ذہن میں نہ آئیں۔
8. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، اشارہ کرنا، باتیں کرنا، باتیں سننا، بلاوجہ کھانسنہ اور غیر ضروری حرکت کرنا منع ہے۔
9. نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھیں۔ مگر نظر سجدہ گاہ کی طرف ہو۔
10. نماز میں دیوار کے ساتھ سہارا مت لگائیں۔ نہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر سہارا لینے کی کوشش کریں۔
11. نماز ہمیشہ چستی اور توجہ سے ادا کریں۔ سستی، کاہلی، اور نیند کی حالت میں نماز ہرگز ادا نہ کریں۔
12. نماز میں اپنی زبان میں دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔
13. جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس شور کرنا، اونچی آواز میں باتیں کرنا منع ہے۔ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا منع ہے۔
14. باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے صفیں بالکل سیدھی ہوں۔ کندھے سے کندھا ملا ہو۔ درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں۔
15. اپنی صف سے اگلی صف میں خالی جگہ نظر آئے تو پہلے اُسے پُر کریں

15. Under forsamlingsbønn skal rekkene være rette, man skal stå skulder mot skulder og uten mellomrom.
16. Dersom man ser en tom plass i rekken foran, skal man fylle den plassen.
17. Man skal gå rolig og anstendig til forsamlingsbønnen, og ikke løpe mot den.
18. Når man er ferdig med bønn, burde man ihukomme Allah meget istedenfor å reise seg brått med en gang.
19. Bønn skal aldri bes ved de forbudte tidspunktene.
20. Når maten er servert, skal man først spise og deretter be, ettersom det kan være utfordrende å la være å tenke på mat mens man ber.

16. باجماعت نماز کی ادائیگی کے لئے وقار اور ادب سے چل کر جائیں دوڑ کر نماز میں شامل نہ ہوں۔
17. نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً نہیں اٹھ جانا چاہیے۔ بلکہ تھوڑی دیر ذکر الہی میں گزاریں۔
18. اوقات ممنوعہ میں نماز ادا نہ کی جائے۔
19. جب میز پر کھانا لگا دیا جائے تو پہلے کھانا کھانا چاہیے کیونکہ ایسے وقت میں توجہ نماز کی بجائے کھانے کی طرف ہو سکتی ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت کے آداب Etiketter for resitasjon av den hellige Koranen

1. Den hellige Koranen er en hellig skrift, derfor bør man passe på renslighet før resitasjon.
2. Man skal si "Jeg søker tilflukt hos Allah mot Satans forbannelse," før man begynner å resitere den ærverdige Koranen.
3. Man burde lese den hellige Koranen rolig, og med tydelig og korrekt uttalelse. Dersom man leser langsomt reduserer man sjansen for å lese feil.
4. Tegnssettingene skal overholdes under resitasjonen av den hellige Koranen.
5. Man skal lese den hellige Koranen regelmessig hver dag og benytte seg av enhver mulighet til å resitere den.
6. Man burde lese den hellige Koranen så lenge man klarer å fokusere på det man leser.
7. Den hellige Koranen burde resiteres på den mest mulig vakreste måte, ettersom resitasjon av den hellige Koranen bidrar med å rense hjertet og heler sjelens lidelser.
8. Den hellige Koranen burde leses i riktig rekkefølge og fullføres.

1. قرآن مجید عزت والا کلام ہے اس لئے اسے پاکیزگی کی حالت میں چھو اور پڑھا جائے۔
2. قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ پڑھنا چاہیے۔
3. قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔
4. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے قواعد کا خیال رکھنا چاہیے۔
5. قرآن مجید کی ہر روز باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ جب بھی وقت میسر ہو اس پاک کلام کو پڑھنا چاہیے۔
6. قرآن مجید کو اس وقت تک پڑھتے رہنا چاہیے جب تک کہ اس میں دل لگا رہے۔
7. قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔
8. قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کا دور مکمل کرنا چاہیے۔
9. قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ خدا تعالیٰ کی اس پیاری کتاب میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔
10. قرآن مجید کی تلاوت کے وقت خاموش رہنا چاہیے اور پوری توجہ کے

9. Den hellige Koranen burde leses med interesse, nøysomhet og dybde, slik at man kan forstå dets innhold og mening.
10. Under resitasjon av Koranen skal man være helt stille, oppmerksom og fokusert, slik at man kan oppnå Guds Barmhjertighet og Velsignelser.
11. Den hellige Koranen burde leses med en overbevisning om at dette er en Bok som rommer skatter av uendelig kunnskap og innsikt.
12. Dersom det dukker opp et *sajdah*-vers mens man resiterer den hellige Koranen, burde man med en gang knele i *sajdah*, uansett om man befinner seg i en stående stilling eller i en sittende posisjon. Det er best at man ikke utsetter *sajdah*.. Derfor er det ikke så viktig om man har gjort *wudhû* eller ikke. Bortsett fra den vanlige *tasbih*, finner vi en spesiell bønn for en slik *sajdah*:
- سَجْدَوْجِهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ**
- "Jeg kneler for det Vesenet som har skapt og skjenket oss den særegne evnen til å høre og se."
13. Vi burde sørge for å lære oss deler av den hellige Koranen utenat, samtidig som vi resiterer den, slik at våre sinn kan fylles med et Guddommeligt lys.
14. For å vise den hellige Koranen respekt, burde vi plassere den på et høyt sted.

ساتھ تلاوت سنی چاہیے۔

11. قرآن مجید کی سورتیں اور دعائیں یاد کرنی چاہیے۔
12. جہاں خدا کے فضلوں کا ذکر ہو وہاں دعا کرنی چاہیے اور جہاں عذاب کا ذکر ہو استغفار پڑھنا چاہیے۔
13. قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اگر سجدہ کی آیات آجائیں تو خواہ انسان کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اُسے سجدہ تلاوت بجالانا چاہیے۔ یہ سجدہ جتنا جلدی کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے لئے وضو کا ہونا بھی کوئی ایسا ضروری نہیں۔ اس سجدہ میں تسبیحات مسنونہ کے علاوہ یہ دعا مانگی جاتی ہے۔
- سَجْدَوْجِهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ**
- ترجمہ:- میرا چہرہ سجدہ ریز ہے اُس ذات کے سامنے جس نے پیدا کیا اور اپنی قدرت خاص سے اُسے سننے اور دیکھنے کی قوت عطا کی۔
14. قرآن مجید کو عزت و احترام کے ساتھ بلند یا محفوظ جگہ پر رکھنا چاہیے۔

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| رَمَضَانَ RAMADHAN 9 | جُمَادَى الْأُولَى JAMA-DIL-ULA 5 | مُحَرَّمًا MUHARRAM 1 |
| شَوَّالَ SHAWWAL 10 | جُمَادَى الثَّانِي JAMAD-UTH-THANI 6 | صَفَرَ SAFAR 2 |
| ذُو الْقَعْدَةِ DHUL-QA'DAH 11 | رَجَبَ RAJJAB 7 | رَبِيعَ الْأَوَّلِ RABI-UL-AWWAL 3 |
| ذُو الْحِجَّةِ DHUL-HUJJAH 12 | شَعْبَانَ SHABAAN 8 | رَبِيعَ الثَّانِي RABI-UTH-THANI 4 |

ہجری قمری ماہ

Etiketter for moské

مسجد کے آداب

En moské er Guds hus og egnet til ihukommelse og tilbedelse av Gud. Man burde derfor ha stor respekt for moskeer.

1. Man skal være ren og ha på seg rene klær når man skal til moskeen.
2. Man skal først sette inn høyre fot og deretter resitere bønne som bes når man ankommer moskeen.
3. Når man kommer inn i moskeen skal man hilse **السلام علیکم** med en anstendig stemme.
4. Når man ankommer moskeen skal man lese to *rak'at* med frivillig bønn hvis man har tid til det. Disse bønnene kalles *Tahiyyat-ul-Masjid*, altså "moskeens gave".
5. Man skal ikke innta noe som lukter vondt, som for eksempel hvitløk, før man besøker moskeen.
6. Man skal beskytte moskeen for all mulig skitt og smuss.
7. Man skal unngå unødig bruk av mobil og liknende i moskeen.
8. Man skal ikke passere foran de som ber.
9. Man skal legge fra seg skoene på den angitte plassen.
10. Når man skal forlate moskeen skal man si **السلام علیکم** og sette først venstre fot ut samtidig som man resiterer bønne for å forlate moskeen.

مسجد خدا کا گھر ہوتا ہے۔ جہاں ہم خدا کو یاد کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں مسجد کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔

1. مسجد میں پاک صاف ہو کر، صاف ستھرے لباس پہن کر جانا چاہیے۔
2. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔
3. مسجد میں داخل ہو کر حاضرین کو مناسب آواز میں **السلام علیکم** کہیں۔
4. مسجد میں پہنچنے کے بعد اگر وقت ہو تو دو نفل ادا کریں۔
5. لہن، مولیٰ، پیاز یا کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جائیں۔
6. مسجد کو ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف رکھیں۔
7. مسجد میں موبائل فون کا غیر ضروری استعمال نہ کریں۔
8. نماز پڑھنے والوں کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے۔
9. مسجد میں جوتے مقررہ جگہ پر رکھیں۔
10. مسجد سے نکلنے کے وقت **السلام علیکم** کہیں۔ پہلے بائیں پاؤں باہر رکھیں اور مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں۔



جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ
آسمان پر عزت پائیں گے۔

(ارشاد حضرت مسیح موعودؑ)

Etiketter for Måltid

کھانے کے آداب

1. Hendene skal vaskes ordentlig før man spiser.
2. Følgende bønn skal leses før man begynner maten:
بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ بَرَكَاتِهِ
Hvis man glemmer å lese bønnen, kan man bare lese
بِسْمِ اللّٰهِ فِي أَوَّلِهِ وَأَخِيرِهِ
3. Man skal spise med høyre hånd, og unngå å stikke hele hånda i maten.
4. Istedenfor å plukke ting man liker først, som kjøtt og lignende, skal man helle direkte fra bollen.
5. Man skal kun skjenke så mye mat man orker å spise. Det burde ikke ligge igjen mat på tallerken, man burde spise opp alt og deretter helle mer etter behov.
6. Man skal ta små matbiter av gangen, tygg maten sakte med lukket munn og unngå å lage lyder mens man tygger.
7. Man burde ikke lene seg mot noe mens man spiser.
8. Når man drikker vann skal man ta tre pauser imellom slurkene. Man skal ikke puste inn i glasset.
9. Maten og drikken burde ikke være glovarmt når man skal spise eller drikke den.
10. Følgende bønn skal leses når man er ferdig med maten.
11. Når man skal sette og reise seg fra spisebordet, skal man gjøre det rolig og ikke lage unødvendige bråk.
12. Etter at man har spist, skal man legge tallerken i vasken.
13. Etter at man har spist skal man vaske hendene ordentlig og skylle munnen.

1. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں۔
2. کھانا شروع کرتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ بَرَكَاتِهِ اللّٰهِ پڑھیں اگر بھول جائیں تو کھانے کے دوران جب یاد آئے تو بِسْمِ اللّٰهِ فِي أَوَّلِهِ وَأَخِيرِهِ پڑھیں۔
3. کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں، پورا ہاتھ کھانے میں نہ ڈالیں۔
4. پلیٹ میں کھانا اپنے سامنے سے ہی ڈالیں نہ کہ اپنی پسند کی چیزیں مثلاً بوٹیاں وغیرہ چُن چُن کر ڈالنا شروع کر دیں۔
5. پلیٹ میں کھانا اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ کھا سکتی ہیں۔ پلیٹ میں کھانا باقی نہ بچائیں بلکہ پلیٹ اچھی طرح صاف کریں۔ اگر ضرورت ہو تو مزید لے سکتے ہیں۔
6. کھانے کا نوالہ چھوٹا لیں۔ منہ بند رکھ کر آہستہ آہستہ اچھی طرح چبا کر کھائیں اور کھانا چبانے کی آواز پیدا نہ ہو۔
7. کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔
8. پانی پیتے ہوئے تین بار سانس لیں۔ گلاس کے اندر سانس نہیں لینا چاہیے۔
9. کھانا بہت گرم نہ کھایا جائے۔ اور نہ ہی بہت زیادہ گرم چائے یا دودھ پیا جائے۔
10. جب کھانا ختم کر چکیں تو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ پڑھیں۔
11. کھانے کی میز پر بیٹھتے اور اُٹھتے ہوئے نہایت آرام سے بغیر آواز پیدا کیے کر سی اپنی جگہ پر رکھیں۔
12. کھانے کے برتن اٹھا کر برتن دھونے والی جگہ پر رکھیں۔
13. کھانے کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھوئیں اور کُلّی بھی کریں۔

گفتگو کے آداب

Etiketter for Samtale og kommunikasjon

1. Alltid si sannheten når du skal uttrykke deg.
2. Alltid formuler deg på en fornuftig og forståelig måte.
3. Man burde alltid holde en ren samtale. I en beretning sies det at den hellige Profeten^{saw} sa at en ren samtale i seg selv er en form for almisse.
4. Man skal prate rent og pent.
5. Man skal ikke overdrive når man snakker.
6. Tungen vår har en sterk innflytelse på vår atferd, og derfor er det viktig for en muslim å passe på ordbruket. Man burde passe på ikke å bruke upassende kallenavn og ikke bannlyse andre. Man skal aldri bruke banneord. Banning er et onde som forinter troen.
7. En muslim er pliktet til å dekke over andres mangler. Derfor er det viktig å passe på at man ikke baksnakker andre, og at man ikke gjør narr av andre.
8. Man skal ikke håne andre mens man prater.
9. Man burde tenke seg godt om før man sier noe. Man burde se seg til om situasjonen tillater det man har tenkt å si, og holde seg unna det som kan virke provoserende for andre.
10. Man burde snakke på en klar måte som forhindrer misforståelser og gir en klar oppfatning til den andre.
11. Dersom man er sint skal man ikke snakke i med en hissig tone, man skal derimot roe seg ned og prate på en hyggelig måte.
12. Dersom man ikke har noe fornuftig å si, er det best å forbli stille.
13. Man skal ikke spre rykter. Rykter ødelegger samfunnets samhold og fred.
14. Man burde huske de muslimske skikkene når man prater, som for eksempel

جزاك الله إن شاء الله ماشاء الله إنا لله

1. ہمیشہ اچھی اور نیک بات کہنی چاہیے۔
2. اگر کوئی بات کہو تو ہمیشہ سچ بات کہو۔ گھما پھرا کر بات نہیں کرنی چاہیے۔
3. پاکیزہ گفتگو کرنی چاہیے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔
4. تکلف اور بناوٹ کے بغیر گفتگو کرنی چاہیے۔
5. گفتگو میں جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔
6. زبان کا سارے اخلاق پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس لئے مسلمان پر واجب ہے کہ وہ سخت زبانی نہ کرے۔ بُرے نام سے نہ پکارے اور نہ ہی کسی پر لعنت کرے۔ گالی گلوچ نہ دے۔ کیونکہ یہ وہ بد خلقی ہے جو انسان کے ایمان کو غارت کر دیتی ہے۔
7. مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے۔ اس لئے گفتگو میں غیبت کرنے سے بچنا چاہیے۔
8. گفتگو کے دوران کسی کو کمتر سمجھ کر اسکی ہنسی نہیں اڑانی چاہیے۔
9. گفتگو میں اگر مذاق کارنگ ہو بھی تو ایسا نہ ہو کہ کسی کو تکلیف دے۔
10. بات مختصر اور موقع کے مطابق کرنی چاہیے۔ دوسرے کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع دینا چاہیے۔
11. غصے اور جوش میں آکر تیزی سے جلد جلد بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ آرام سے گفتگو کرنی چاہیے۔
12. اگر کچھ کہنے کو نہ ہو تو خاموش رہنا چاہیے۔
13. سُنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔
14. ادھر کی بات سن کر ادھر اور ادھر کی بات سن کر ادھر نہیں بتانی چاہیے کیونکہ اس سے فساد پھیلتا ہے۔
15. گفتگو کے دوران موقع کی مناسبت سے جزاکم اللہ، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، اناللہ، استغفر اللہ، الحمد للہ کے الفاظ ادا کرنے چاہئیں۔
16. گفتگو کے دوران کسی کی بات کا ٹنی نہیں چاہیے۔ گفتگو کرنے والے کی بات پوری توجہ سے سنی چاہیے۔
17. بزرگوں کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ ادب کے ساتھ ان سے گفتگو کی جائے۔

استغفر الله الحمد لله

15. Man skal aldri lyve selv om man tuller, og heller aldri vri og vrenge på en løgn slik at den fremstår som sannheten.
16. Man skal aldri spre ting man kun har hørt, noe som kan skape splittelser.

Respekt for foreldre

Foreldre er en gave uten like. Et barn kan aldri gjengjelde den omsorgen foreldrene har gitt det, og derfor fortjener de endeløs respekt og omsorg. Foreldrene har en særegen kjærlighet for sitt barn, som gjør at de hele tiden prøver å gi barnet en god oppdragelse.

1. Man burde ha en god atferd mot foreldrene. Foreldrene har de største rettighetene når det gjelder menneskerettigheter.
2. Det er et barns plikt å være lydig og vise omsorg overfor sine foreldre. Dette skal utføres med et oppriktig hjerte og med kjærlighet, samtidig skal man be for sine foreldre dag og natt.
3. Det viktigste ansvaret til barnet, er å holde foreldrene lykkelige. Barn skal passe seg for å opprøre dem, ettersom foreldre har en eksepsjonell evne til å bli bønnhørte for sine barn.
4. Man skal ikke bare tjene foreldrene i deres liv, men også etter at de dør. Man burde videreføre foreldrenes dyder. Man burde alltid handle rettfærdig, slik at foreldrene også kan få belønning for barnas dyder, noe som resulterer i at deres stilling i Paradiset øker. For å oppnå dette må man be til Gud om deres tilgivelse.

والدین کے آداب



1. ہمیشہ والدین کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی بات سنی چاہیے۔
2. والدین جس بات سے منع کریں اس سے منع ہو جانا چاہیے۔ بلاوجہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔
3. والدین آپ کے سب سے اچھے دوست ہیں ان سے کوئی بھی بات نہیں چھپانی چاہیے۔
4. ان سے ہمیشہ آہستگی سے اور نرمی سے بات کرنی چاہیے۔
5. اپنے کسی بھی عمل سے انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے۔
6. ہمیں اپنے والدین کے لئے رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا والی دعا کرنی چاہیے۔
7. ان کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

دوسرا کلمہ شہادت

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

تیسرا کلمہ تمجید

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔

چوتھا کلمہ توحید

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریف ہے
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا زَوَالِ الْجَلَالِ
وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہے جو مرے گا نہیں عظمت
وَالْإِكْرَامِ بِبَيْدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

سوالات بعنوان ”اسلام اور احمدیت“

- سوال 1- اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟
جواب- ذاتی نام اللہ ہے، وہ ذات جو تمام خوبیوں کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔
- سوال 2- اسلام کے معنی کیا ہیں؟
جواب- فرمانبرداری
- سوال 3- اسلام کے بنیادی ارکان بتائیں؟
جواب- اسلام کے بنیادی ارکان پانچ ہیں۔ 1- کلمہ طیبہ 2- نماز 3- روزہ 4- زکوٰۃ 5- حج
- سوال 4- ارکان ایمان کتنے ہیں اور کون کون سے؟
جواب- چھ ہیں۔ (1) اللہ پر ایمان۔ (2) اس کے فرشتوں پر ایمان۔ (3) اس کی کتابوں پر ایمان۔ (4) اس کے رسولوں پر ایمان۔ (5) یوم آخرت پر ایمان۔ (6) خیر و شر کی تقدیر پر ایمان۔
- سوال 5- قرآن کریم کتنے عرصہ میں نازل ہوا؟
جواب- تقریباً 23 سال میں۔
- سوال 6- قرآن کریم کی پہلی دو اور آخری دو سورتوں کے نام بتائیں؟
جواب- پہلی دو سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ ہیں اور آخری سورۃ الفلق، سورۃ الناس ہیں۔
- سوال 7- قرآن کریم کی سب سے بڑی سورۃ اور سب سے چھوٹی سورۃ کون سی ہے؟
جواب- سورۃ البقرہ سب سے بڑی اور سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی ہے۔
- سوال 8- سورۃ البقرہ کی پہلی سترہ آیات میں کتنے گروہوں کا ذکر ہے ان کے نام بتائیں؟
جواب- تین کا ذکر ہے۔ متقی، کافر اور منافق۔
- سوال 9- ہمارے پیارے آقا آنحضرت ﷺ کا نام کیا ہے؟
جواب- حضرت محمد ﷺ ہے۔
- سوال 10- حضرت محمد ﷺ کا نام کس نے رکھا؟
جواب- آپ کا نام آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے ”محمد“ رکھا۔
- سوال 11- محمد کا کیا مطلب ہے؟
جواب- ”بہت تعریف کے قابل“۔ جس کی بہت تعریف کی جائے۔



Tidslinjen av Profeten Muhammads^{saw} liv

570/571

- Profeten Muhammad blir født

576

- Hadrat Amina (mor til profeten Muhammad) dør

578

- Hadrat Abdul Mutlib (farfar til profeten Muhammad) dør

595

- Profeten gifter seg med Hadrat Khadija

610

- Første åpenbaring

615

- Første imigrasjon til Etiopia på grunn av religiøs forfølgelse.

617

- Sosial boikott av Profeten Muhammad og Banu Hashim

619

- Hadrat Khadija og Hadrat Abu Talib dør

622

- Profeten Muhammad utvandrer til Medina

624

- Krigen ved Badr
- Retning av bønn blir endret fra Jerusalem til Mekka

625

- Krigen ved Uhud

627

- Krigen ved Vollgraven

628

- Hudaibya pakten
- Krigen ved Khaybar
- Profeten sender brev til forskjellige konger

629

- Profetens pilgrimsreise til Mekka

630

- Seieren over Mekka

632

- Profetens siste pilgrimsreise og Avskjedspreken
- Profeten Muhammads bortgang

NB: Årene i denne tidslinjen er omtrentlige.

سوال 12- آنحضرت ﷺ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟

جواب-

آپ 12 ربیع الاول بمطابق 24 اپریل 571ء کو پیر کے دن عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔

سوال 13- آنحضرت ﷺ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟

جواب-

آپ کا تعلق قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تھا۔

سوال 14- آنحضرت ﷺ کے والد کا کیا نام تھا؟

جواب-

آپ کے والد کا نام حضرت عبد اللہ تھا۔

سوال 15- آنحضرت ﷺ کی والدہ کا کیا نام تھا؟

جواب-

آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔

سوال 16- آنحضرت ﷺ عمر اُس وقت کیا تھی جب آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی؟

جواب-

40 سال

سوال 17- آنحضرت ﷺ کی عمر بوقت وفات کیا تھی؟

جواب-

63 سال

سوال 18- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کیا نام ہے؟

جواب-

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

سوال 19- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟

جواب-

13 فروری 1835ء کو جمعہ کے دن فجر کے وقت پیدا ہوئے۔

سوال 20- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟

جواب-

قادیان میں۔

سوال 21- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟

جواب-

حضرت مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔

سوال 22- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟

جواب-

چراغ بی بی تھا۔

سوال 23- حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس عمر میں پڑھنا شروع کیا؟

جواب-

چھ سات سال کی عمر میں ایک استاد آپ کو پڑھانے کے لئے مقرر کیا گیا۔

- سوال 24- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ابتدائی تعلیم کیا تھی؟
جواب- آپ نے قرآن مجید اور فارسی کی کچھ کتابیں ایک استاد سے پڑھیں۔ یہی اس وقت کا رواج تھا۔
- سوال 25- حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابتدائی تعلیم کے بعد کہاں سے تعلیم حاصل کی؟
جواب- ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے دو استادوں سے فارسی اور عربی پڑھی، طب کی بعض کتابیں اپنے والد صاحب سے پڑھیں۔
- سوال 26- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبوت سے متعلق الہام کب ہوا؟
جواب- 26 مارچ 1882ء
- سوال 27- جماعت احمدیہ کا نام ”جماعت احمدیہ“ کب رکھا گیا؟
جواب- 4 نومبر 1900ء
- سوال 28- حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کُل کتنی کتب تصنیف فرمائی ہیں؟
جواب- کُل 85 تصنیفات۔
- سوال 29- روحانی خزائن کیا ہے؟
جواب- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 83 کتب جو کہ 23 جلدوں پر مشتمل ہیں انہیں روحانی خزائن کہتے ہیں۔
- سوال 30- ملفوظات کیا ہے؟
جواب- حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا یا خطاب فرمایا اسے ملفوظات کہتے ہیں اور یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔
- سوال 31- مجموعہ اشتہارات کیا ہے؟
جواب- حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جتنے بھی اشتہارات دیئے انہیں 3 جلدوں میں شائع کیا گیا ہے اسے مجموعہ اشتہارات کہتے ہیں۔
- سوال 32- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام کن زبانوں میں ہے؟
جواب- اردو، عربی، فارسی
- سوال 33- حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بیعت کب اور کہاں لی؟
جواب- 23 مارچ 1889ء کو لدھیانہ میں۔
- سوال 34- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟
جواب- 26 مئی 1908ء لاہور میں
- سوال 35- خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے۔ اس میں کون کون سے خلفاء آتے ہیں؟

- جواب۔ خلافتِ راشدہ آنحضرت ﷺ کے بعد آنے والی خلافت کو کہتے ہیں۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ شامل ہیں۔
- سوال 36۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے خلیفہ کون منتخب ہوئے؟
جواب۔ حضرت مولوی حکیم نور الدینؒ
- سوال 37۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ کا تعلق کس شہر سے تھا؟
جواب۔ بھیرہ
- سوال 38۔ سب سے پہلے حضرت مسیح موعودؑ کی بیعت کرنے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟
جواب۔ حضرت حکیم نور الدینؒ صاحب نے
- سوال 39۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ کون تھے ان کا پورا نام بتائیں؟
جواب۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے اور آپ کا پورا نام مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا۔
- سوال 40۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ کتنی عمر میں خلیفہ منتخب ہوئے؟
جواب۔ 25 سال کی عمر میں
- سوال 41۔ حضرت خلیفہ المسیح الثانیؒ کی دنیاوی تعلیم کیا تھی؟
جواب۔ آپ نے سکول میں نویں کلاس تک تعلیم حاصل کی تھی
- سوال 42۔ ناصرات اور لجنہ اماء اللہ کی تنظیم کس نے قائم فرمائی؟
جواب۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ نے
- سوال 43۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ کی وفات کب ہوئی؟
جواب۔ 8 نومبر 1965ء کو ربوہ میں
- سوال 44۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ کون تھے اور ان کا نام کیا تھا؟
جواب۔ حضرت مسیح موعودؑ کے پوتے، حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ کے بڑے بیٹے تھے اور نام حضرت مرزا ناصر احمد صاحبؒ تھا
- سوال 45۔ حضرت مرزا ناصر احمدؒ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
جواب۔ آپ 16 نومبر 1909ء کو قادیان میں
- سوال 46۔ حضرت مرزا طاہر احمدؒ کس کے پوتے، بیٹے اور بھائی تھے؟
جواب۔ آپ حضرت مسیح موعودؑ کے پوتے، حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ کے بیٹے اور حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ کے بھائی تھے
- سوال 47۔ حضرت مرزا طاہر احمدؒ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
جواب۔ 18 دسمبر 1928ء کو قادیان میں

سوال 48- ایم ٹی اے (MTA) کا اجراء کس کے دورِ خلافت میں ہوا؟
جواب- حضرت خلیفۃ المسیح الرابعؒ کے

سوال 49- خلافتِ رابعہ کی چند تحریکات کے نام بتائیں؟
جواب- بیوت الحمد، وقفِ نو، تمام احمدیوں کو عربی اور اردو زبان سیکھنے کی تحریک، مریم شادی فنڈ۔

سوال 50- حضرت خلیفۃ المسیح الخامسؒ کا نام کیا ہے اور کب خلیفہ بنے؟
جواب- آپ کا نام حضرت مرزا مسرور احمد ہے۔ آپ 22 اپریل 2003ء کو خلیفہ بنے۔

سوال 51- حضرت خلیفۃ المسیح الخامسؒ نے اپنے پہلے خطاب میں جماعت کو کیا پیغام دیا؟
جواب- بہت دعائیں کریں۔ بہت دعائیں کریں۔ بہت دعائیں کریں۔

سوال 52- حضرت خلیفۃ المسیح الخامسؒ نے احمدی طلبہ کو کم از کم کہاں تک تعلیم حاصل کرنے کی تحریک فرمائی ہے؟
جواب- ایف اے (videregående)

سوال 53- ”میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور بشارتوں کی رو سے سب کا منہ بند کر دیں گے“ حضرت مسیح موعودؑ کی اس پیشگوئی کے مصداق ٹھہرنے والوں میں سے دو کے نام بتائیں؟
جواب- حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب اور محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب۔

سوال 54- U.N.O کے پہلے احمدی صدر اور پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ (utenriksminister) کون تھے؟
جواب- حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب۔

سوال 55- کس احمدی مسلمان سائنسدان کو نوبل انعام ملا؟
جواب- پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام

اُردو گنتی

| ایک ¹ | دو ² | تین ³ | چار ⁴ | پانچ ⁵ | چھ ⁶ | سات ⁷ | آٹھ ⁸ | نو ⁹ | دس ¹⁰ |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 11 گیارہ | 12 بارہ | 13 تیرہ | 14 چودہ | 15 پندرہ | 16 سولہ | 17 سترہ | 18 اٹھارہ | 19 انیس | 20 بیس |
| 21 اکیس | 22 بائیس | 23 تیس | 24 چوبیس | 25 پچیس | 26 چھیس | 27 ستائیس | 28 اٹھائیس | 29 نینتیس | 30 تیس |

سوالات بعنوان ”قرآن کریم“



- 1- قرآن کریم کس کا کلام ہے؟
- ج- اللہ تعالیٰ کا
- 2- قرآن کریم کس پر نازل ہوا۔
- ج- حضرت محمد ﷺ
- 3- قرآن کریم کتنے عرصہ میں نازل ہوا؟
- ج- قریباً 23 سال میں۔
- 4- قرآن کریم کس فرشتہ کے ذریعہ نازل ہوا؟
- ج- حضرت جبرائیل علیہ السلام۔
- 5- قرآن کریم کا نزول کہاں شروع ہوا؟
- ج- غارِ حرا میں۔
- 6- قرآن کریم کی سورتوں کی تعداد بتائیں؟
- ج- 114 سورتیں۔
- 7- قرآن کریم میں سپاروں کی تعداد بتائیں؟
- ج- 30 (تیس)
- 8- قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ کون سی ہے؟
- ج- سورۃ فاتحہ۔
- 9- قرآن کریم کی سب سے بڑی سورۃ کون سی ہے؟
- ج- سورۃ البقرہ
- 10- قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورۃ کون سی ہے؟
- ج- سورۃ الکوثر
- 11- اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں؟
- ج- 104 صفاتی نام۔ مثلاً الرحمن، الرحیم، القيوم، الغفور وغیرہ
- 12- اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن کریم سے بیان کریں؟
- ج- سورۃ الاخلاص
- 13- خدا تعالیٰ کی آخری شرعی کتاب کون سی ہے؟
- ج- قرآن کریم۔
- 14- قرآن کریم کی پہلی دو سورتیں کون سی ہیں؟
- ج- سورۃ فاتحہ اور البقرہ۔
- 15- قرآن کریم کی آخری دو سورتیں کون سی ہیں؟

- ج- سورة الفلق اور سورة الناس۔
- 16- قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں؟
- ج- 6616 آیات۔ (کہیں 6236 اور کہیں 6666 لکھیں ہیں)
- 17- قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟
- ج- 540 رکوع۔
- 18- سورة البقرہ کی پہلی سترہ آیات میں کتنے گروہوں کا ذکر ہے؟ نام بتائیں۔
- ج- تین گروہوں کا۔ متقی، کافر اور منافق۔
- 19- قرآن، کریم کی کس سورة میں بِسْمِ اللّٰهِ دودفعہ آئی ہے؟
- ج- سورة نمل میں۔
- 20- قرآن، کریم کی کس سورة میں پہلے بِسْمِ اللّٰهِ نہیں آئی اور کیوں؟
- ج- سورة التوبہ سے پہلے۔ کیوں کہ یہ سورة الانفال کا ہی حصہ ہے۔
- 21- قرآن، کریم میں آنحضرت ﷺ کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟
- ج- 4 (چار) مرتبہ۔
- 22- قرآن کریم میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟
- ج- حضرت زید رضی اللہ عنہ کا۔
- 23- قرآن، کریم کی ان سورتوں کے نام بتائیں جو انبیاء کے نام پر ہیں؟
- ج- سورة ابراہیم، سورة ہود، سورة یونس، سورة یوسف، سورة نوح، سورة محمد۔
- 24- قرآن کریم میں مذکورہ تباہ شدہ اقوام میں سے تین کے نام بتائیں؟
- ج- قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب الرس، اصحاب الایکہ، قوم لوط، قوم فرعون، اصحاب الفیل۔
- 25- قرآن کریم میں کن پھلوں کا ذکر موجود ہے؟ نام بتائیں۔
- ج- رمان (انار)، عنب (انگور)، التین (انجیر)، طلع (کیلا)، الزیتون (زیتون)، النخل (کھجور)۔
- 26- قرآن، کریم میں کن چوپایوں (چار ٹانگوں والے جانور) کے نام آتے ہیں؟
- ج- اونٹ، بکریاں، دنبہ، بھیڑ، گائے، کتا، سور، گھوڑا، خچر، گدھا، ہاتھی، شیر، بندر۔
- 27- قرآن، کریم کے پہلے پانچ پاروں کے نام بتائیں؟
- ج- (1) اللّٰہ (2) سَبِّحُوْا (3) تِلْكَ الرُّسُل (4) لَنْ تَنَالُوْا (5) وَالْمُحْصِنَات
- 28- سورة فاتحہ قرآن کریم کے کس پارے میں ہے؟
- ج- کسی پارے میں نہیں۔
- 29- قرآن کریم میں سب سے زیادہ احکام کس سورة میں ہیں؟
- ج- سورة البقرہ۔
- 30- حضرت نوح کی کشتی نے کس پہاڑ پر پناہ لی نام بتائیں؟
- ج- جودی پہاڑ

- 31- سورة الفيل میں کس پرندے کا ذکر کیا گیا ہے نام بتائیں؟
ج- ابا بیل۔
- 32- قرآن مجید میں کس ظالم بادشاہ کا ذکر ہے جس کا تعلق مصر سے تھا؟
ج- فرعون
- 33- قرآن مجید میں مدینہ کا پرانا نام کیا ہے؟
ج- یثرب
- 34- قرآن مجید میں کون سے دریا کا ذکر ہے؟
ج- دریائے نیل
- 35- قرآن مجید میں 'قُل' سے شروع ہونے والی سورتوں کے نام بتائیں؟
ج- سورة الكافرون۔ سورة الاخلاص۔ سورة الفلق۔ سورة الناس۔
- 36- قرآن مجید کی چار سورتوں کے نام بتائیں جو انبیاء کے ناپر ہیں؟
ج- سورة يونس۔ سورة هود۔ سورة يوسف۔ سورة محمد۔
- 37- قرآن مجید میں شہد کی مکھی کا ذکر کہاں آیا؟
ج- سورة النحل
- 38- قرآن مجید میں قلم کا ذکر کہاں آیا ہے؟
ج- سورة القلم آیت 2۔ سورة العلق آیت 5
- 39- قرآن مجید کی رُو سے نماز کس بات سے روکتی ہے؟
ج- یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے۔
- 40- قرآن مجید کی کس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں؟
ج- سورة التوبہ 36
- 41- قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے؟
ج- 28 انبیاء کا۔
- 42- اُم الکتاب سے کیا مراد ہے؟
ج- سب کتابوں کی ماں۔
- 43- قرآن کریم کی کس سورت کو اُم الکتاب کہا جاتا ہے۔
ج- سورة الفاتحة
- 44- قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کس سورۃ میں ہے؟
ج- سورة البقرہ آیت 282۔
- 45- قرآن مجید میں سب سے زیادہ کون سا حرف آتا ہے؟
ج- الف
- 46- قرآن مجید میں کون سی سورۃ ہے جو ایک جنگ کا نام بھی ہے؟



- ج- سورة احزاب
47- آنحضرت ﷺ نے قرآن کریم کی چوٹی کا حصہ کس سورت کو قرار دیا ہے؟
- ج- سورة البقرہ کو
48- قرآن مجید کی کس سورۃ میں اللہ کا نام 5 بار آتا ہے؟
- ج- سورة الحج
49- کس سورۃ کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے؟
- ج- سورة لیس
50- قرآن کریم کی سب آیتوں کی سردار کس آیت کو کہا جاتا ہے؟
- ج- آیت الکرسی کو
51- قرآن مجید میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے؟
- ج- 70 بار
52- قرآن مجید میں کتنی سورتیں مکی ہیں؟
- ج- 86
53- قرآن مجید میں کتنی سورتیں مدنی ہیں؟
- ج- 28
54- قرآن مجید کی کس سورۃ کا نام حضرت محمد ﷺ کے قبیلے کا نام تھا؟
- ج- قریش
55- آخری پارہ میں کتنی سورتیں ہیں؟
- ج- 37
56- قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟
- ج- 2698
57- قرآن مجید میں سب سے اچھا پینے کے لئے کیا بیان ہوا؟
- ج- دودھ
58- قرآن مجید میں کون سی ناپسندیدہ چیز بیان کی گئی ہے جو حلال بھی ہے؟
- ج- طلاق
59- کتنی اور کون سی سورتیں بسم اللہ کے بعد الحمد للہ سے شروع ہوتی ہیں؟
- ج- پانچ۔ سورة الفاتحہ، سورة الانعام، سورة الکہف، سورة سبا، سورة الفاطر
60- قرآن مجید میں ایک حرف کے نام سے کتنی سورتیں ہیں؟
- ج- دو۔ ق اور ص
61- قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟
- ج- 14

62- کن خلیفہ کے دور میں قرآن مجید لکھا گیا؟

ج- حضرت ابو بکر صدیقؓ

63- قرآن مجید میں کس نبی کو ان کی والدہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟

ج- حضرت عیسیٰ کو ابن مریم

64- حضرت محمد ﷺ پر مکہ میں کتنے سال وحی نازل ہوئی۔

ج- 13 سال

65- حضرت محمد ﷺ پر مدینہ میں کتنے سال وحی نازل ہوئی؟

ج- 10 سال

66- قرآن مجید کی کون سی سورۃ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟

ج- سورۃ الفاتحہ

67- قرآن مجید کی کتنی منزلیں ہیں؟

ج- 7

68- قرآن مجید کے پہلے حافظ کون تھے؟

ج- حضرت محمد ﷺ

69- کاتب وحی کون ہیں؟

ج- حضرت ابو بکرؓ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت زید بن حارثؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

70- آنحضرت ﷺ پر ہونے والی پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟

ج- 2 سال 6 ماہ

71- کس خلیفہ کے دور میں قرآن کریم کی کتابت کروا کر اسے مختلف علاقوں میں بھجوا یا گیا۔

ج- حضرت عثمان غنیؓ

72- قرآن کریم میں موجود پیشگوئیوں میں سے چند ایک کے بارے میں بتائیں۔

ج- پہاڑوں کی طرح کے سمندری جہاز بنائے جائیں گے۔ چڑیا گھر بنائے جائیں گے۔ کتابوں کی کثرت کے ساتھ اشاعت ہوگی۔ انسان اس کائنات

کو پار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسلام کے سورج کے ایک مرتبہ پھر طلوع ہونے کی پیشگوئی۔ زمین کی سرحدیں پھیلیں گی۔ زمین کے اندر

چھپے ہوئے خزانے دریافت ہوں گے۔

73- ہستی باری تعالیٰ کا ایک ثبوت قرآن کریم سے بیان کریں؟

ج- غلبہٴ رسل: قرآن، کریم میں ہے۔ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْتُمْ وَاَنْتُمْ لِي (مجادلہ آیت: 22)

ترجمہ: اللہ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔

74- حفاظت قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا ہے؟

ج- اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ۔ (سورۃ الحجر: 10)

ترجمہ: اس ذکر (یعنی قرآن) کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔

75- نزول کے لحاظ سے قرآن کریم کی پہلی آیت کون سی ہے؟

ج- اِقْرَأْ بِأَسْمَاءِ الَّذِي خَلَقَ (سورة العلق)

ترجمہ: اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔

76- نزول کے لحاظ سے آخری آیت کون سی ہے؟

ج- وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ - (البقرہ آیت 282)

ترجمہ: اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

77- آنحضرت ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کا کس سورۃ اور کس آیت میں ذکر ہے؟

ج- سورة الاحزاب آیت 41 میں ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ -

ترجمہ: نہ محمد (ﷺ) تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں۔

78- قرآن کریم میں وفاتِ مسیح کے ثبوت کی ایک آیت بتائیں؟

ج- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ - (العنکبوت 58)

ترجمہ: ہر جاندار موت کا مزہ اچکھنے والا ہے۔

79- قرآن کریم میں صداقتِ مسیح موعود کے ثبوت کی ایک آیت بتائیں؟

ج- فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ - (یونس آیت 17)

ترجمہ: اس سے پہلے میں ایک عرصہ دراز تم میں گزار چکا ہوں کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

80- لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟

ج- وہ مبارک رات جس میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا اور جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿۱۹۹﴾

ترجمہ: کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

81- شق القمر (چاند کے دو ٹکڑے ہونے) کے معجزہ کا ذکر قرآن کریم کی کس سورۃ میں ہے؟

ج- سورة القمر کی آیت نمبر 2 تا 7 میں ہے۔

پانچواں کلمہ استغفار

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ عَمَدًا أَوْ حَطًّا سِرًّا

میں اللہ سے معافی مانگا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا ، جان بوجھ کر

أَوْ عِلَانِيَةً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ الذَّنْبِ الذِّي أَعْلَمْتُ وَمِنْ الذَّنْبِ

یا بھول کر، درپردہ یا کلمہ کلا اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس کے گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس

الذِّي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَارُ الْغُيُوبِ وَ

کے گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں۔ بے شک تو جیوں کو جاننے والا اور جیوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کا

غَفَّارُ الذَّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ٥٠

بخشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔

10 betingelser for Bai'at

Dette er de 10 betingelsene for troskapsløftet som avgis før man blir en del av Ahmadiyya Muslim Jama'at slik de ble beskrevet av den utlovede Messias og Mahdi^{as}.

1. Den som ingår troskapspakten skal med oppriktig hjerte love å avholde seg fra *sjirk* (å sette noen lik med Allah) fram til den dagen han/hun går til graven.
2. At han/ hun skal avholde seg fra all forme for løgn, hor, øyets overtredelser, utsvevelser, og utskeielser, grusomhet, uhederlighet, stifte ufred og opprør. Og ved opphisselse av sine sanslige begjær skal han/hun ikke la seg bli drevet av disse, hvor sterke de enn måtte være.
3. At han/hun regelmessig vil forrette de foreskrevne fem daglige bønnene i overensstemmelse med Guds og Profetens befaling. Og at han/hun vil gjøre sitt beste for å be *tahadjud* (frivillig nattbønn), nedkalle *durud* (velsignelser) over sin hellige Profet, Allahs velsignelser og fred være med ham, gjør det til sin vane å daglig be om tilgivelse for sine synder og gjør *istighfar* (be om at Gud dekker over ens feil) og med oppriktig kjærlighet, ved ihukomme Gud den Opphøydes velsignelser, gjøre det til sin daglig vane å lovprise og forherlige Ham.
4. At han/hun under opphisselse av sine sanselige begjær ikke urettmessig vil påføre Allahs skapninger generelt og muslimer spesielt noen lidelser. Verken gjennom tungen, hånden eller på andre måter
5. At han/hun vil forbli trofast mot Allah under alle omstendigheter, i sorg og glede, motgang og framgang, i lykke og under prøvelser, og at han/hun under alle omstendigheter til være tilfreds med Allahs forordning, og være beredt til å møte alle ydmykelses og lidelser på Hans vei og aldri vende seg bort fra denne veien ved motgang av noe slag – tvert om skal han/hun marsjere fremad
6. At han/hun vil avholde seg fra å følge uislamske skikker og lystige tilbøyeligheter, og vil underkaste seg helt Den hellige Koranens autoritet og gjøre Allahs ord og Profetens utsagn til rettesnor i alle livets faser.
7. At han/hun vil oppgi sitt hovmod og sin forfengelighet og leve sitt liv i beskjedenhet, ydmykhet, munterhet, overværenhet og saktmodighet.
8. At han/hun vil holde troen, troens ære og sympati for Islam mer kjært enn sitt liv, og sine eiendeler og sine ære og sine barn og alle andre kjære.
9. At han/hun hengivent vil tjene Allahs skapninger – alene for Allahs skyld, og at han/hun vil gagne menneskeheten etter sine beste gudgitte evner og nådegaver.
10. At han/hun vil knytte et broderlig bånd til denne ydmyke person for Allah skyld alene, og adlyde meg i alt godt og forbli trofast mot dette løftet til den dag han/hun dør. At han/hun skal utvise en slik hengivenhet for opprettholdelse av dette broderlige båndet hvis like ikke er å finne i verdslige forhold og relasjoner, og ikke er å finne i andre sammenhenger som krever oppriktig pliktoppfyllelse.

(Plakaten «Takmil-e-Tabligh», 12. jan. 1889)

Spørsmål om Islam og Ahmadiyyat

1. Hva er Allahs personlige navn og hva er dets betydning?

"Allah" er det personlige navnet og det betyr "vesenet som er fullkomment og fri for alle mangler."

2. Hva betyr Islam?

Underkastelse

3. Hva er det islamske grunnpilarene?

- 1) Trosbekjennelsen - *Qalimah*
- 2) Bønn - *Salat*
- 3) Fasten - *Roza*
- 4) Almisse - *Zakat*
- 5) Pilegrimsreisen - *Hajj*

4. Hvor mange trosartikler er det i Islam? Nevn hvilke.

Det er seks trosartikler i Islam.

- 1) Troen på Allahs eksistens
- 2) Troen på Hans Engler
- 3) Troen på Hans Bøker
- 4) Troen på Hans Profeter
- 5) Troen på Dommedagen
- 6) Troen på det Guddommelige dekret

5. Hvor lang tid tok det å åpenbare den hellige Koranen?

Nesten 23 år

6. Hva heter de to første og siste kapitlene (suraene) i den hellige Koranen.

De to første er:

- 1) Sura Al Fatiha 2) Sura Al Baqarah

De to siste er:

- 1) surah Al Falaq 2) Sura Al Nas

7. Hva heter det lengste og korteste kapittelet i den hellige Koranen?

Det lengste er sura Al Baqarah, mens sura Al Kausar er det korteste verset

8. Hvor mange folkegrupper blir nevnt i de første 17 versene av sura Al Baqarah, og hva heter de?

Det er tre folkegrupper som nevnes i kapittelet:

- 1) De gudfryktige
- 2) De vantro
- 3) Hyklerne

9. Hva er den hellige Profeten sitt navn?

Hazrat Muhammad^{saw}

10. Hvem valgte navnet Muhammad?

Det var hans bestefar, Hazrat Abdul Mutlib som valgte navnet

11. Hva betyr navnet Muhammad?

Muhammad betyr "den prisverdige"

12. Når ble den hellige Profeten Muhmmad^{saw} født? I hvilken by?

Han ble født mandag den 24. april år 571 e.Kr. i den arabiske byen Mekka

13. Hva var navnet til slekten som den hellige Profeten^{saw} tilhørte?

Den hellige Profeten^{saw} tilhørte en familie fra Quraish-stammen som het Banu Hisham

14. Hva het faren til den hellige Profeten^{saw}?

Faren til den hellige Profeten^{saw} het Hazrat Abdullah

15. Hva het moren til den hellige Profeten^{saw}?

Moren til den hellige Profeten^{saw} het Hazrat Amna

16. Hvor gammel var den hellige Profeten^{saw} da han mottok sin første åpenbaring?

Han var 40 år gammel

17. Hvor gammel var den hellige Profeten^{saw} ved sin bortgang?

Han var 63 år gammel

18. Hva heter den utlovede Messias^{as}?

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani

19. Når ble den utlovede Messias^{as} født?

Han ble født fredag den. 13 februar i år 1835 e.Kr. ved *Fajr*-tiden.

20. Hvor ble den utlovede Messias^{as} født?

Han ble født i Qadian i India

21. Hva het faren til den utlovede Messias^{as}?

Hazrat Mirza Ghulam Murtaza.

22. Hva het moren til den utlovede Messias^{as}?

Chirag Bibi

23. Hvor gammel var den utlovede Messias^{as} da han begynte å sin utdannelse?

Det antas at han begynte å få undervisning i en alder av 6-7 år.

24. Hva begynte den utlovede Messias^{as} å studere først?

Han studerte den hellige Koranen og noen persiske bøker. Dette var et utbredt studium på den tiden

25. Hva var det andre studiet til den utlovede Messias^{as}?

Etter at han ble ferdig med sitt første studium, begynte den utlovede Messias^{as} å lære seg persisk og arabisk, samtidig som han ble undervist i medisin av sin far

26. Når mottok den utlovede Messias^{as} sin første åpenbaring?

Han mottok sin første åpenbaring den 26. mars i år 1882

27. Når fikk menigheten navnet sitt?

Den 4. november i år 1900 fikk menigheten navnet Ahmadiyyat

28. Hvor mange bøker skrev den utlovede Messias^{as} til sammen?

Han skrev 83 bøker til sammen

29. Hva er Ruhani Khazain?

Ruhani Khazain er de 83 bøkene skrevet av den utlovede Messias^{as} fordelt på 24 bind. Disse bindene kalles Ruhani Khazain

30. Hva er Malfozaat?

Malfozaat er en samling av den utlovede Messias^{as} sine uttalelser og taler. Denne samlingen er fordelt på 10 bind

31. Hva er Majmoa-e-Ishteharaat?

Det er en samling av alle de annonsene som ble publisert av den utlovede Messias^{as}. Denne samlingen er fordelt på tre bind

32. Hvilke språk har den utlovede Messias^{as} brukt i sitt poetiske verk og diktning?

Han har skrevet dikt på både urdu, arabisk og persisk

33. Når og hvor ble det første troskapsløftet holdt av den utlovede Messias^{as}?

Den første *Bai'at* ble tatt den 23. mars i år 1889 i Ludhiana

34. Når gikk den utlovede Messias^{as} bort?

Han gikk bort den 26. mai i år 1908 i Lahore

35. Hva er Khilafat-e-Rahidah? Og hvilke kalifer utgjør dette kalifatet?

Khilafat-e-Rashidah er det kalifatet som ble etablert etter bortgangen til den hellige Profeten^{saw}. Følgende kalifer utgjør dette kalifatet:

- 1) Hazrat Abu-Bakr Siddique^{ra}
- 2) Hazrat Omar Farooq^{ra}
- 3) Hazrat Usman Ghani^{ra}
- 4) Hazrat Ali^{ra}

36. Hvem ble utnevnt for å være den første kalif etter bortgangen til den utlovede Messias^{as}?

Hazrat Maulwi Hakeem Noor-ud-Din^{ra}

37. Hvilken by kom den første kalifen fra?

Han var fra Bahera

38. Hvem var det som ga det første troskapsløftet?

Det var Hazrat Maulwi Hakeem Noor-ud-Din^{ra}

39. Hvem var den andre kalif, og hva er hans navnet?

Han var sønnen til den utlovede Messias^{as}, og hans navn er Hazrat Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad^{ra}.

40. Hvor gammel var den andre kalifen da han ble utnevnt som kalif?

Han var 25 år gammel

41. Hvilken utdanningen hadde den andre Khalif?

Han gikk på skole frem til niende klasse

42. Hvem var det som opprettet organisasjonene Lajna Imaillah og Nasirat?

Det var Hazrat Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad^{ra}, den andre kalifen

43. Når gikk den andre kalifen bort?

Han gikk bort den 8. november i år 1965

44. Hvem var den tredje Khalif, og hva het han?

Han var barnebarnet til den utlovede Messias^{ra}, sønnen til Hazrat Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad^{ra}. Han het Hazrat Mirza Nasir Ahmad^{rah}.

45. Hvor og når ble Hazrat Mirza Nasir Ahmad^{rah} født?

Han ble født i Qadian den 16. november i år 1909

46. Hvem sitt barnebarn, sønn og bror var Hazrat Mirza Tahir Ahmad^{rah}, den fjerde kalifen?

Han var barnebarnet til den utlovede Messias^{as}, sønnen til Hazrat Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad^{ra}, og broren til Hazrat Mirza Nasir Ahmad^{rah}

47. Hvor og når ble Hazrat Mirza Tahir Ahmad^{rah} født?

Han ble født i Qadian den 18. desember i år 1928

48. Hvilken kalif var det som opprettet kanalen MTA?

Det var den fjerde kalifen^{rah}

49. Nevnt noen prosjekter opprettet av den fjerde kalifen^{rah}?

- 1) Buyut-ul-Hamd
- 2) Waqf-e-Nau
- 3) Oppfordringen om å lære seg arabisk og urdu
- 4) Maryam Shadi Fund

50. Hva heter den femte kalifen? Og når ble han utnevnt som Khalif?

Han heter Hazrat Mirza Masroor Ahmad^{aba} og ble utnevnt som kalif den 22. april i år 2003

51. Hva var det første budskapet til den femte kalifen^{aba} etter at han ble kalif?

Han sa: "Be veldig mye, be veldig mye, be veldig mye"

52. Hvor er det minimale studiekravet for en Ahmadi muslim?

Den femte kalifen^{aba} har sagt at en Ahmadi muslim burde i hvert fall ha fullført videregående utdanning. Den utlovede Messias sa: "visse folk fra min menighet vil oppnå et høyt nivå av kunnskap og innsikt, og med sannhetens lys vil de presentere argumenter og gledelige budskap som vil forstumme tilskuerne"

53. Nevn to skikkelser som oppfyller profetien til den utlovede Messias^{as}?

Hazrat Choudhary Muhammad Zafrullah Khan og Dr. Abdus Salam.

54. Hvem var den første Ahmadi muslimske lederen av FN og Pakistans første utenriksminister?

Det var Hazrat Choudhary Muhammad Zafrullah Khan

55. Hva het Ahmadi muslimen som vant Nobelpris?

Det var Dr. Abdus Salam.

Spørsmål om Koranen

1. Hvem sine ord inneholder den Hellige Koranen?

Allahs hellige ord

2. Hvem ble den Hellige Koranen åpenbart til?

Den ble åpenbar til Hazrat Muhammad^{saw}

3. Hvor lang tid tok det før hele den hellige Koranen ble åpenbart?

Det tok omtrent 23 år

4. Hvilken engel brakte åpenbaringen av den Hellige Koranen?

Det var erkeengelen Gabriel

5. Hvor begynte åpenbaringen av den hellige Koranen?

I Hira-hulen

6. Hvor mange kapitler er det i den hellige Koranen?

Det er 114 kapitler

7. Hvor mange deler består den hellige Koranen av?

Den består av 30 deler

8. Hvilket kapittel er den første i den hellige Koranen?

Sura Al Fatiah

9. Hva heter den hellige Koranens lengste kapittel?

Sura Al Baqarah

10. Hva heter den hellige Koranens korteste sura?

Sura Al Kausar

11. Hvor mange av Allahs attributter er nevnt i den hellige Koranen?

Det er nevnt 104 attributter, for eksempel den Nåderike, den Barmhjertige, den Levende

12. Legg frem Allahs attributter fra den hellige Koranen.

Sura Al Ikhlas

"I Allahs navn, den Mest Nåderike, den Evig Barmhjertige.

Si: Han er Allah, den Eneste,

Allah den Uavhengige.

Han avler ikke,

heller ikke er Han født,

og ingen er Hans like"

13. Hvilken bok er den siste lovgivende bok fra Gud?

Det er den hellige Koranen.

14. Hvilket kapittel er de to siste i den hellige Koranen?

1) Sura Al Falaq

2) Sura Al Naas.

15. Hvilke sura er de to første i den hellige Koranen?

- 1) Sura Al Fatiah
- 2) Sura Al Baqarah.

16. Hvor mange vers inneholder den hellige Koranen?

Den inneholder 6 616 vers

17. Hvor mange «rukuh» inneholder den hellige Koranen?

Det er 504 "rukuh"

18. Hvor mange grupper nevnes i de første 17 versene av sura Al Baqarah?

Det er tre grupper som nevnes

- 1) De troende
- 2) De vantro
- 3) Hyklerne

19. I hvilket kapittel av den hellige Koranen er Bismillah brukt to ganger?

Sura Al Namal

20. Hvilket kapittel av den hellige Koranen begynner ikke med Bismillah, og hva er grunnen?

Sura Al Taubah, fordi den er en del av Sura Al Nafal

21. Hvor mange ganger nevnes navnet til den hellige Profeten^{saw} i den hellige Koranen?

Det nevnes fire ganger

22. Hvilken av følgesvennene til den hellige Profeten^{saw} er nevnt i den hellige Koranen?

Hazrat Zaid^{ra} har blitt nevnt

23. Nevn navnet på kapitler som bærer navnet til profetene?

- 1) Sura Ibrahim
- 2) Sura Hud
- 3) Sura Yunus
- 4) Sura Yosuf
- 5) Sura Noh
- 6) Sura Muhammad

24. Nevn tre folkegrupper som ble utslettet og som nevnes i den hellige Koranen?

- 1) Folket til Hazrat Noa^{ra}
- 2) Aad
- 3) Samood

25. Hvilke frukter nevnes i den hellige Koranen?

- 1) Granateple 2) Druer 3) Fiken 4) Banan 5) Oliven 6) Daddel

26. Hvilke firbeinte dyr nevnes i den hellige Koranen?

- 1) Kamel, 2) Lam 3) Tykkhalesau 4) Sau 5) Ku 6) Hund 7) Svin 8) Hest 9) Muldyr 10) Esel 11) Elefant
12) Løve 13) Ape

27. Nevn navnet på de fem første delene i den hellige Koranen?

- 1) Alif Laam Meem 2) Sayakolu 3) Tilka Rasolu 4) Lan Tanalu
5) Wal Mohsinati

28. I hvilken del finnes sura Al Fatiha i den hellige Koranen?

Den inkluderer ikke i de 30 delene

29. I hvilket kapittel er det flest bud?

Sura Al Baqarah

30. På hvilket fjell søkte arken til Hazrat Noah^a tilflukt?

På Jodifjellet

31. Hvilken fugl nevnes i sura Al Fil?

Svale

32. Hvilken ond konge nevnes i den hellige Koranen?

Farao

33. Hva er det gamle navnet til Medina i den hellige Koranen?

Yasrab

34. Hvilken elv er nevnt i den hellige Koranen?

Nilen

35. Nevn alle kapitlene i den hellige Koranen som begynner med Qul?

1) Sura Al Kafirun 2) Sura Al Ikhlas 3) Sura Al Falaq 4) Sura Al Naas

36. Nevn navnet på de fire kapitlene som bærer navnet til profetene?

1) Sura Yunus 2) Sura Hud 3) Sura Yosuf 4) Sura Muhammad

37. I hvilket kapittel nevnes bien i den hellige Koranen?

I sura Al Nahl

38. Hvor i den hellige Koranen nevnes pennen?

1) I sura Al Qalam, vers 2

2) I sura Al Ala, vers 5

39. Hva vil bønnen beskytte det mot i følge den hellige Koranen?

Bønnen beskytter mot uanstendighet og enhver avskyelig handling

40. Hvilket vers i den hellige Koranen beviser at det er 12 måneder i et år?

Sura A Taubah, vers 36

41. Hvor mange profeter nevnes i den hellige Koranen?

28 profeter

42. Hva menes med tittelen "Umm-ul-Kitab"?

Den betyr "alle bøkernes mor", den hellige Koranen

43. Hvilket kapittel i den hellige Koranen kalles for "Umm-ul-Kitab"?

Sura Al Fatiha

44. Hvilket kapittel i den hellige Koranen inneholder det lengste verset?

Sura-al-Baqarah, vers 282

45. Hvilken bokstav er mest nevnt i den hellige Koranen?

Den arabiske bokstaven *alif*

46. Hvilket vers i den hellige Koranen har navnet etter en krig?

Sura Al Ahzaab

47. Hvilket kapittel har den hellige Profeten^{saw} nevnt som den hellige Koranens viktigste del?

Sura Al Baqarah

48. I hvilket kapittel i den hellige Koranen nevnes navnet til Allah 5 ganger?

Sura Al Hadj

49. Hvilket kapittel nevnes som den hellige Koranens hjerte?

Sura Al Yaseen

50. Hvilket vers i den hellige Koranen blir kalt for «versenes leder»?

Aytal Korsi

51. Hvor mange ganger nevnes ordet "Koran" i den hellige Koranen?

Det nevnes 70 ganger

52. Hvor mange kapitler ble åpenbart i Mekka?

86 kapitler ble åpenbart i Mekka

53. Hvor mange kapitler i den hellige Koranen ble åpenbart i Medina?

28 kapitler ble åpenbart i Medina

54. Hvilket kapittel har samme navn som stammen til den hellige Profeten^{saw}?

Sura Al Quraish

55. Hvor mange vers er det i det siste kapittelet?

7 vers

56. Hvor mange ganger er ordet Allah nevnt i den hellige Koranen?

2 698 ganger

57. Hva nevnes som den beste drikken i den hellige Koranen?

Melk

58. Hva er nevnt som avskyelig men som likevel er halal, i den hellige Koranen?

Skilsmisse

59. Hvor mange og hvilke kapitler begynner med Bismillah og deretter Alhamdolillah?

Fem kapitler innledes på måten;

1) Sura Al Fatiha 2) Sura Inaam 3) Sura Kahaf 4) Sura Saba 5) Sura Fatir

60. Hvor mange sura i den hellige Koranen har navn på en bokstav?

1) Sura Qaaf 2) Sura Saad

61. Hvor mange "Sajdah" er det i den hellige Koranen?

14 "Sajdah"

62. Under hvilken kalifs tid ble den hellige Koranen skrevet ned?

I kalifatperioden til Hazrat Abu-Bakr Siddique^{ra}

63. Hvilken profet er omtalt med sin mors navn i den hellige Koranen?

Hazrat Jesus^{as} omtales som "Ibn-e-Maryam", det vil si "Sønn av Maryam"

64. Hvor mange år mottok den hellige Profeten^{saw} åpenbaringer i Mekka?

I 13 år

65. Hvor mange år mottok den hellige Profeten^{saw} åpenbaringer i Medina?

I 10 år

66. Hvilket akapittel i den hellige Koranen blir resitert i hver eneste «rakat» i bønner?

Sura Al Fatiha

67. Hvor mange trinn er det i den hellige Koranen?

7 trinn

68. Hvem var den første til å lære seg den hellige Koranen utenat?

Det var den hellige Profeten^{saw} selv

69. Hvem var de som skrev ned åpenbaringene?

1) Hazrat Abu Bakr^{ra}

2) Hazrat Usman^{ra}

3) Hazrat Ali^{ra}

4) Hazrat Zaid bin Haris^{ra}

5) Hazrat Abdullah bin Masood^{ra}

70. Hvor stor tidsrom var det mellom den første og den andre åpenbaringen til den hellige Profeten^{saw}

2 år og 6 måneder

71. Under hvilken kalifs tid ble den hellige Koranen nedskrevet og sendt til ulike områder?

Under kalifatet til Hazrat Usman Ghani^{ra}

72. Nevn noen åpenbaringer fra den hellige Koranen?

Svar: Det vil bygges båter som minner om fjell, det vil bygges dyrepark, det vil trykkes veldig mange bøker, mennesket vil prøve å reise gjennom universet, Islams sol vil igjen stå opp, jordas grenser vil utvides, man vil oppdage skjulte skatter under jorda.

73. Gi et bevis for Guds eksistens fra den hellige Koranen?

Profetenes seier er et bevis på Guds eksistens. I den hellige Koranen sier Allah: "*Allah har foreskrevet: Jeg vil visselig seire, Jeg og Mine sendebud*" (Sura Al-Mudjâdilah vers 22)

74. Hvilket løftet har Allah, den Opphøyde, gitt om bevaring av den hellige Koranen?

Allahs sier: "*Sannelig, Vi har Selv åpenbart formaningen, og Vi vil visselig Selv bevare den*" (Sura Al Hidjr, vers 10)

75. Hvilket vers i den hellige Koranen ble åpenbart først?

"*Iqra bissmi rabbi kallazii khalaq*", (Sura Al Alaq, vers 2)



**KUNNSKAPS-
PENSUM**

Nasirat-ul-Ahmadiyya

Norge

2017